



- MIFTÁHUL QŪRÁN -

PART II.

A Complete Glossary of the Qūrán

BY

Rev. Ahmad Shah.

PRINTED FOR THE AUTHOR

BY

E. J. LAZARUS & CO.,

at the Medical Hall Press,

BENARÉS.

—:0:—

1906.

(All Rights Reserved.)

PRICE RS. 8, POSTAGE & C., EXTRA.



... originally.
 ... or followed.
 نقل کیا جاتا ہے
 ... preferred.
 جو باقی رہ گیا
 They excited or raised. اُنہوں نے اُتھایا
 (لڑ) They have stirred up, or excited or ploughed or broke up the earth. اُنہوں نے اُتھارا یا آمادہ کیا
 Excites or raises or stirs up (as dust). اُتھاتی ہے یا اُتھارتی ہے یا اُڑاتی ہے
 Adam. آدم
 (آز) Name of Abraham's father. ابراهیم کے باپ کا نام
 Back, loins. پونہ۔ کمر
 They have provoked us to wrath. اُنہوں نے ہمارے غصہ دلایا
 (اسف) Sorrow or grief. افسوس
 Has grieved. اُس نے افسوس کیا
 (اس) Corrupt, putrid. بدبو۔ مہزہ
 The evening. (اصل) اصیل
 The evening. شام
 Root, the lowest part, bottom. نیچے کا حصہ۔ جزر
 Roots, principles. چیزیں۔ طریق
 The farthest point of the horizon. (افق) افق
 حد نگاہ
 The horizon or its highest point. آسمان یا اُسکی انتہا
 (اولاد) Descendants. اولاد
 (احسان) Benefits, mercies. نعمتیں۔ احسان
 (وقت) Time. وقت
 Time has not yet come. ابھی وقت نہیں آیا
 اب کر

Vessel, utensil. برتن
 Vessels. برتنوں
 اُس نے دھیان کیا (انس) He perceived.
 اُنسے دھیان کیا Ye have perceived.
 میں نے دھیان کیا I have perceived.
 اُناس
 اُنس
 اُنسان۔ آدمی
 اُنسی
 آدمیوں Men. اُناسی
 ابھی۔ اسی وقت Just now, lately. اُنفا
 ناک Nose. اُنف
 اُدی He has given a shelter. اُس نے پناہ یا جگہ دی
 اُدی I will take shelter or refuge. میں پناہ لوں گا
 Thou art giving a shelter or a place of refuge. تو جگہ دیتا ہے
 اُوینا We have given a shelter. ہمنے پناہ یا جگہ دی
 (آیت) Sign, verse. نشانی۔ آیت
 دو آیتیں Two signs or verses. اُوین
 آیتیں Signs. اُویت
 باپ A father. اُب
 ما باپ Parents. اُبو
 بزرگان۔ باپ دادے Fathers, ancestors. اُبا
 میرا باپ My father. اُبی
 اُس نے انکار کیا (ابی) He disliked, refused.
 انکار کریں May refuse. اُباب
 انکار کرتا ہے Refuses. اُبابی
 انکار کیا Refused. اُبو

Women have refused. عورتوں نے انکار کیا
 (اب) Grazing ground. چراگاہ
 (ابریق) Goblets. صراحی۔ لوٹا
 (بتر) Childless, without tail. بے اولاد۔ بے دم
 Eternally, ever, for ever. ہمیشہ
 (برج) I will quit; cease; leave off. میں جدا ہوں گا
 ہم جدا ہونگے We will quit, cease.
 کوڑھ والا Leprous. اُبصرص
 They have fixed or settled. انہوں نے ٹھہرایا
 Those who fix upon a plan. مقرر کرنے والے۔ ٹھہرانے والے
 (بسل) Are delivered over to perdition. ہلاکت میں سونپے گئے
 (ابق) Fled. وہ بھاگا
 (ابل) Camel. اونٹ
 Flocks (of birds). جھنڈ یا چڑیوں کا گروہ
 (بلس) Satan. شیطان
 Are seized with despair. نا امید ہوئے
 (ترف) We endowed with good things ہمنے آرام دیا
 اُتروا They are given pleasures. وہ لذت دئے گئے
 اُتروا } Are given good things of this life.
 اُتروا } اس زندگی کی نعمت دئے گئے
 I recline. میں تکیہ کرتا ہوں یا جھکتا ہوں
 (محل) A place where any one reclines. تکیہ لگانے والے
 Those who recline. تکیہ لگانے والے
 Are reclined on a couch. تکیہ لگائے بیٹھنے والے

تکبہ لگانے ہیں۔ Are leaning upon. یسکندرون

آیا۔ Came. (آئی) آئی

وہ دونوں آئے۔ They both came. آتیا

وہ آئیں۔ Those (women) came. آئین

تو آیا۔ Thou hast come. آتیت

ہم آئے۔ We came. آئینا

وہ آئے۔ They came. آتوا

وہ آئی۔ She came. آتت

وہ آتا ہے۔ He is coming. آتی

دونوں آتی ہیں۔ Both (women) are coming. یاتیا

آئے ہیں۔ Are coming. یاتون

نہ لایا۔ Did not bring. لم یات

نہ لائے۔ Did not bring. لم یاتوا

تم دونوں آؤ۔ Come ye both. آتیا

وہ لائے گئے۔ They being brought. آتوا

آنے والی۔ Comers. آئینہ

میں آؤنگا۔ I will or shall come. آتی

تو لا۔ Bring thou. آت

لاؤ۔ Bring. آتو

تم آتے ہو۔ Ye are coming. آتون

آتی ہے۔ f. Comes. آتی

آنے والا۔ One who comes. آت

ہم آتے ہیں۔ We are coming. آتی

دینا۔ To give. آت

وہ دیتی ہے۔ She gives. آتی

تم دیتی ہو۔ Ye are giving. آتون

تم دینے جاؤ گے۔ Ye will be given. آتون

اُس نے دیا۔ He gave. آتی

انہوں نے دیا۔ They gave. آتوا

Those (women) gave. آتین

اور عورتوں نے دیا۔ Thou hast given. آتیت

تم نے دیا۔ Ye gave. آتینم

میں نے دیا۔ I gave. آتیت

ہم نے دیا۔ We gave. آتینا

تم دیتی ہو۔ Ye (women) are giving. آتین

تم دو۔ Give ye. آتوا

نہ دیا گیا۔ Not given. لم یوت

وہ دئے گئے۔ They are given. آتوا

وہ دیا گیا۔ He is given. آتے

میں دیا جاؤنگا۔ I shall or will be given. آتی

تو دیا گیا۔ Thou art given. آتیت

میں دیا گیا۔ I am given. آتیت

تم دئے گئے۔ Ye are given. آتینم

ہم دئے گئے۔ We are given. آتینا

دینے والے۔ Those who give. آتون

ہم دیتے ہیں۔ We are giving. آتوت

ہم دینگے۔ We will give. آتونی

ہم دئے جائیں گے۔ We shall or will be given. آتونی

ہم دئے جاتے ہیں۔ They are being given. آتون

وہ دیتے ہیں۔ They are giving. آتون

وہ دیتا ہے۔ He gives. آتی

وہ دیا جاتا ہے۔ He is given. آتی

اسباب۔ مال۔ Property. (ث) آثارث

Sinner, guilty, an evil doer. اثم

بدکار قصور وار۔ گناہ کار۔ Sin, guilt, iniquity. (اثم) اثم

گناہ میں ڈالنا۔ Accusation of crime. اثم

Sinners, transgressors. اثمین

Ye have made slaughter. (لحق) آتختنموا

جہڑ کا بیڑ۔ T-m-r-i k. (ائل) آئل

کھڑی پانی۔ Salt water. (آج) آج

Is rooted up. f. (جٹ) آجتت

آکر آتی گئی۔ A sepulchre. (جڈٹ) آجڈاٹ

Wage. (اجر) آجر

Wages. مزدوری

تو نوکری کریگا۔ Thou shalt serve. تاجر

Thou hast employed. [تاجر] تاجر

تو نوکر رکھ۔ Employ thou. اساجر

A period, appointed term. (اجل) آجل

دو مقررہ مدتیں۔ Two fixed periods. آجلین

باعث۔ واسطے۔ On that account. آجل

Thou hast fixed a term. آجلت

تو نے مدت ٹھہرائی۔ Having fixed terms or predetermined period. آجل

دیر کی گئی۔ Delayed. آجلت

To drag, to excite or assault or attack. (جلب) آجلب

To surround, encompass, comprehend. (حاط) آحاط

Has surrounded or guarded. آحاطت

We have surrounded. آحطنا

Is being encompassed. آحیط

I brought the news. آحطت

will be encompassed. گھیرا جائیگا
 They are encompassing. وہ گھیرنے میں ہیں
 One who encompasses or comprehends. گھیرنے والا
 f. who compasses or comprehends. گھیرنے والی
 Jewish Priest or Doctor. (حبر) یہودیوں کا گاہن
 Ye will be made delighted. تم خوش بنے جاؤ گے
 Will be made delighted or joyful. خوش بنے جائینگے
 He has rendered vain. اوسنے ناچیز کیا
 One man. ایک مرد (احد)
 One woman. ایک عورت (احدی)
 To bring into subjection or will utterly destroy. ہلاک کرونگا یا زیر کرونگا (احتک)
 We have calculated. ہمنے شمار کیا (حصی)
 Calculate ye or number. تم شمار کرو (احصوا)
 Ye will or shall count. تم گنو گے (تحصروا)
 Clever in calculating. گننے میں نہایت ہوشیار (احصی)
 The winding sands, name of a province in Arabia. ریت کی غار۔ عرب میں ایک علاقہ کا نام (احقاف)
 A brother. بھائی (اخ)
 Brethren, friends. بھائی۔ دوست (اخوة)
 Companions. ساتھی (اخوان)
 A sister. بہن (أخت)
 Two sisters. دو بہنیں (أختین)
 Sisters. بہنیں (إخوات)
 A brother. بھائی (إخ)
 Humbled. عاجزی کی (أخض)

عاجز ہوتی Acquiesces in. تَضَبَّتْ
 Those who humble themselves. مُخَضِّبِينَ
 عاجزی کرنے والے
 Lovers. (خدن) اَخْدَان
 Pits or trenches. کھایاں (خد) اَخْدَادُ
 To take, receive. لینا (اخذ) اَخَذَ
 He took. اوسنے لیا اَخَذَ
 She took. اوسنے لیا اَخَذَتْ
 He is seized or caught, وہ پکڑا گیا اَخَذَ
 To seize upon, take in hand. پکڑنا اَخَذَ
 Ye took. تم نے لیا اَخَذْتُمْ
 Thou seizest. تو پکڑتا ہے اَخَذْتَ
 Ye are taking. تم لیتے ہو تَأْخُذُونَ
 We take. ہم لیتے ہیں نَأْخُذُ
 Will not be taken. نہ لیا جائیگا لَا يَأْخُذُ
 Take. لے اَخِذْ
 We are seizing. گرفتار کرتے ہیں نَتَأْخُذُ
 Seizes or punishes. پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے يَتَأْخُذُ
 Are seizing or punishing. پکڑتے ہیں یا سزا دیتے ہیں يَتَأْخُذُونَ
 Take ye. تم لو اَخِذُوا
 They took. اونہوں نے لیا اَخَذُوا
 We took. ہم نے لیا اَخَذْنَا
 They are caught. وہ پکڑے گئے اَخَذُوا
 Those who take. لینے والی اَخِذِينَ
 Thou seizest or punishest. تو پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے تَأْخُذُ
 Seizes or punishes. پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے يَأْخُذُ
 Put off. مہلت دی (أخر) اَخَّرَ
 Has left behind. پیچھے چھوڑا [اَخَّرَ

اوسنے پیچھے چھوڑا f. Has left behind. اَخَّرَتْ
 Thou hast delayed. تو نے دیر کی اَخَّرْتَ
 Has delayed. دیر کی اَخَّرَ
 Remains or stays behind. پیچھے ہوتا ہے اَخْرَبَ
 Are delaying. دیر کرتے ہیں اَخْرَبُوا
 Those who tarry behind. پیچھے رہنے والی اَخْرَبِينَ
 Does not delay or put off. دیر نہیں کرتا لَا يَأْخُرُ
 Another, other, the last. دوسرا اَخْرَ
 The last, the end, latter end, behind. پیچھلا اَخْرَ
 Has remained behind. وہ پیچھے رہا اَخْرَانِ
 The last, the end. پیچھلے اَخْرَبِينَ
 Last, the end, the latest, the latter end. پیچھلی f. اَخْرَبَةَ
 Draw off, put off. (جوتی) اوتارو اِخْلَعْ
 Grievous, stupendous. (اد) اِدَا
 بہاری چیز۔ حیرت افزا
 To make over or restore. حوالہ کرنا یا پہنچانا (ادی) اَدَاءُ
 Ye will return or pay back. تم واپس کرو گے اَدْوُ
 Return or restore ye. تم حوالے کرو یا واپس دو اَدُوا
 Restores or is paying back. ادا کرتا ہے اَدْوُ
 We have averted or driven off. تم نے دور کیا یا اختلاف کیا (دوا) اِدْرَأْتُمْ
 Drive off. دور کرو اِدْرَأُوا
 Driving off, putting off. ٹالتے ہیں اِدْرَأُونَ
 Made known, warned. آگاہ یا خبردار کیا (دری) اِدْرِي
 Teaches, informs. آگاہ یا خبردار کرتا ہے اِدْرِي
 I know. میں جانتا ہوں اِدْرِي
 Thou knowest. تو جانتا ہے اِدْرِي
 We know, ہم جانتے ہیں اِدْرِي

He knows. وہ جانتا ہے

More grievous. بڑی بلا (دھی) اذہلی

When, then, if. اگر-جب-جسوقت (اذ) اذ

When. جب-یکایک اذنا

Just now. اسوقت اذنا

An ear. کان (اذن) اذن

Two ears. دوکان اذنین

Ordered or gave ear. اذنت

حکم کیا یا کان رکھا

Permission. اجازت اذن

He permitted; ordered. اذن

Thou hast permitted. اذنت

Ears. کان اذان

We have proclaimed. اذنا

I have declared. اذنت

I will or shall permit. اذن

Permit thou. اذن

Permit ye. اذنوا

Is permitted. اذن

He called out or proclaimed. اذن

Proclaim thou. اذن

To make known. اذان

Proclaimed or declared. اذنت

One who proclaims. اذون

May be permitted. اذن

Give permission. اذن

Asks permission. اذنت

He asked permission. اذنت

They asked permission. اذنتوا

انہوں نے اجازت چاہی

Are asking permission

They have made known or divulged. انہوں نے مشہور کیا

Chin. تھدی (ذقن) اذقان

Trouble. تکلیف (اذی) اذی

They have hurt or have troubled. انہوں نے ستایا

Ye have troubled. تم نے ستایا

Hurt or trouble ye. تم ستاؤ

Is troubling. ستاتا ہے

Are being troubled. ستائے جاتے ہیں

Vilest, most abject. (اذل) اذذل

نہایت کمینہ و خراب

اراذل

ارذال

ارذالون

Mean people. کمینے لوگ

Thrones, couches. تخت (ارک) ارک

Need, want, a necessity. حاجت (ارب) ارب

Necessities, necessities, uses. حاجتیں

Aside. کنارے (ارجاء) ارجاء

Put off. مہلت دے (ارجہ) ارجہ

Hope, expect. امید رکھو (ارجوا) ارجوا

Are held in suspense. دیور کئے گئے (ارجون) ارجون

Hopes. امید رکھتا ہے (ارجوا) ارجوا

Earth, land, a country. زمین-ملک (ارض) ارض

Has upset, overturned. اٹا دیا (ارکس) ارکس

Are overturned. اٹا دیئے گئے (ارکسوا) ارکسوا

Stamp the feet on the ground. لات مار (ارکض) ارکض

Ye stamp. تم لاتی مارتے ہو (ارکضون) ارکضون

Incited. (از) از

Incites. (از) از

Drawn nearer. (ازفت) ازفت

One who comes near. (ازفة) ازفة

Arrows of omen or of divination. (ازلام) ازلام

Fables, idle tales. (اساطیر) اساطیر

One who presides, manager. (مسیطر) مسیطر

Managers. (مسیطرون) مسیطرون

Manager. (مصیطر) مصیطر

Managers. (مصیطرون) مصیطرون

Written. (سطر) سطر

Are writing. (یسطرون) یسطرون

A prison. (اسر) اسری

A prisoner, captive. (اسیر) اسیر

Prisoners, captives. (اساری) اساری

Ye imprison. (تاسرون) تاسرون

Grand-sons, tribe, descendants. (اسباط) اسباط

Got hold or overcame. (استحوذ) استحوذ

We over came or prevailed. (نستحوذون) نستحوذون

He implored. (استغاث) استغاث

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They two. (استغیثان) استغیثان

They disdain. انہوں نے انکار کیا یا حقاقت کرنا
 Disdains. انکار کرتا ہے یا اہانت کرتا ہے
 (صرف) To be extravagant. فضول خرچی
 He exceeded bounds. وہ حد سے گذرا
 They exceeded bounds. انہوں نے حد سے زیادہ خرچ کیا
 He is extravagant. فضول خرچ ہے
 They are exceeding bounds. فضول خرچ ہیں
 A prodigal. فضول خرچ
 Has founded. اوسنے بنا رکھی (اس)
 Foundation is laid. بنیاد رکھی گئی
 Ishmeal. ہاجرہ کے بیٹے کا نام
 A pattern, example, worthy of imitation. پیروی-چال-نمونے کے لائق (اسا)
 To be sad, solicitous. افسوس کرنا
 Thou art grieving. تو افسوس کرتا ہے
 Be ye sorry or vexed. تم افسوس کرو
 Conditions. نشانیاں (شرط) اشراط
 I make my complaint. میں شکایت کرتا ہوں (شکا) اشکو
 A niche in a wall. طاق جس میں کندیل یا چراغ رکھیں
 She complains. وہ شکایت کرتی یا جھینکتی ہے
 f. contracted with horror. تنگ ہوئی (شمر) اشماز
 A covenant, burden. عہد-بوجھا (امر) اص
 Fetters. بیڑیاں (صفد) اص
 They lost it by their neglect. انہوں نے اپنی غفلت سے کہو یا
 I am unmindful. میں بے پروائی کرتا ہوں
 Are neglecting. بے پروائی کرتا ہے

We will cause to be ruined. ہم برباد کرینگے
 Enemies, feelings. دشمن-بد گمانیاں
 Draw closer. نزدیک کر لے یا ملالے
 Cast forth. پھینک دو (طرح) اطرحوا
 He has extinguished. اوسنے بجھایا (طفي) اطفئ
 Are extinguishing. بجھاتے ہیں
 He has rested. اوسنے آرام کیا (طمن) اطمان
 Ye secured peace. تم خاطر جمع ہوئے
 They kept quiet. وہ خاموش ہوئے
 One who rests. آرام کرنے والا
 f. One who rests. آرام کرنے والی
 Those who rest. آرام کرنے والے
 f. Is resting. آرام کرتی ہے
 Is resting. آرام کرتا ہے
 One who does not beg though poor. قانع محتاج (عر) معتري
 A foreigner to Arabia or who speaks broken Arabic. غیر زبان-عربی بولنے والا شخص
 Foreigners who speak broken Arabic. غیر عرب جو ٹوٹی پھوٹی عربی بولیں
 f. Lamé from birth. پیدائشی لنگڑا (عر) اعرج
 f. Mounts or ascends. چڑھتی ہے
 Mounts or ascends. چڑھتا ہے
 Are ascending. چڑھتے ہیں
 Stairs, ladder. سیڑھیاں
 A whirlwind. بگولا (عصر) اعصار
 I am squeezing. میں نیچورتا ہوں
 Are pressing or squeezing. نیچورتے ہیں

Those that are emitting or pressing out rain. بارش نیچورتے والیاں
 I will or shall render faulty. میں عیب لگاؤنگا (عاب) اعيب
 We excited or incited. ہم نے لگائی بجھائی کی (غرا) اغرينا
 Cast down. نیچے کر (غض) اغضض
 They are lowering the eyes. وہ آنکھ نیچے کرتی ہیں
 Are casting down the eyes. آنکھ نیچے کرتے ہیں
 Has made dark. اندھیرا کیا (غطش) اغطش
 Fie! شرم (اف) اف
 He rushed impetuously. وہ بے تحاشا چلا-یا دوڑا (فاض) افاض
 Rush ye. تم چلو یا دوڑو (افيضوا) افيضوا
 f. Overflows. وہ بہتی ہے (ففيض) افيض
 Rushed ye. تم چلے (افضتم) افضتم
 Make room. کشادہ کرو (فسح) افسحوا
 Sit separated or make room in the assembly. جماعت میں کھل بیٹھو
 Makes room. کشادہ کرتا ہے (يفسح) افسح
 A fine eloquent speaker. خوشگو (افصح) افصح
 He has approached (as husband to his wife.) وہ پہونچا (فضا) افضلى
 To tell lies, a falsehood. بھتان-جھونٹہ (افك) افك
 Be thou overthrown or turn thou upside down. تو پھرے (تافك) تافك
 A great liar. بڑا جھونٹھا (افاك) افاك
 Is turned upside down. اوندھا کیا گیا-پھیرا گیا (انك) انك
 That which is overthrown or turned upside down. پھرنے والی (مؤتفكة) مؤتفكة
 f. Are overthrown or turned. اُلٹی کی گئیں (مؤتفكات) مؤتفكات
 They are inventing a lie. تہمت کرتے ہیں (يافكون) يافكون

پھیرا جاتا ہے۔ **يُؤْتِك** Is being turned.

پھیرے جانے کے **يُؤْفِكُون** Will be overthrown.

چھپ گیا **أَقْل** (اقل) Has set or has hidden.

غائب ہوئی **أَقْلَمَتْ** f. Has disappeared.

انہیں **أَقْلَمِينَ** Those which hide.

چھپ جانے والے

He is saved or has prospered. **أَقْلَمَ** (فعل) (فعل) (فعل)

اوسنے نجات پائی

Saved ; prosperous or happy. **مُقْلَمُونَ**

نجات پانے والے

Prosperous one. **مُقْلَمٌ** نجات پانے والا

مراد کو پہنچے گا **يُقْلَمُ** Will be prosperous.

Will attain their desires. **يُقْلَمُونَ**

مراد کو پہنچینگے

Ye will prosper. **تُقْلَمُونَ**

تم مراد کو پہنچو گے

شاخیں **أَفْذَانٍ** (ف) Branches.

سوپتا ہوں **أَفْضِي** (فوض) I submit.

Undertook an enterprise. **أَفْتَحِمُ** (فحم)

ہمت کر کے چڑھا

One who rushes headlong. **مُقْتَحِمٌ**

آگے دھسنے والا

Imitate or follow. **أَقْتَدِ** (قدا) پیروی کر

Are imitated or followed. **مُقْتَدُونَ**

پیروی کئے گئے

Ye gained or acquired. **أَقْتَرَفُوا** (قرف)

تم نے کمایا

Those who gain. **مُقْتَرِفُونَ** کمانے والے

Gains. **يُقْتَرِفُ** کماتا ہے

They are gaining. **يُقْتَرِفُونَ** وہ کماتے ہیں

Locks. **أَقْفَالٌ** (قفل) قالے

Wait. **أَقْلَعِي** (قلع) قلعہ

He caused to acquire possessions. **أَقْنِي** (قني) اوسنے پونجی دی

Nourishment, food. **أَقْوَاتٌ** (قات) خوراک

Watchful, guard. **مُحَلِّقَاتٌ**

I am. **أَكُ** (ك) میں ہوں

To be niggardly, hard hearted. **أَكْدَى** (كدا) سخت دل ہوا

To eat, devour, consume. **أَكَلُ** (اكل) کھانا

He ate. **أَكَلَ** اوسنے کھایا

Two ate. **أَكَلَا** دونے کھایا

All ate. **أَكَلُوا** سب نے کھایا

Those who eat. **أَكَلُونَ** کھانے والے

She eats. **تَأْكُلُ** وہ کھاتی ہے

Ye are eating. **تَأْكُلُونَ** تم کھاتے ہو

Eaten up. **مَأْكُولٌ** کھایا گیا

We are eating. **نَأْكُلُ** ہم کھاتے ہیں

He eats. **يَأْكُلُ** وہ کھاتا ہے

They are eating. **يَأْكُلَانِ** وہ کھاتے ہیں

Are eating. **يَأْكُلْنَ** کھاتی ہیں

Are eating. **يَأْكُلُونَ** وہ کھاتے ہیں

Greedy, great eaters. **أَكَالُونَ**

بہت کھانے والے

Eat ye both. **كُلَا** تم دونوں کھاؤ

Not eating. **لَا يَأْكُلُونَ** نہیں کھاتے

Do not eat. **لَا تَأْكُلُوا** مت کھاؤ

Sheaths. **أَكْمَامٌ** (كم) غلافوں

Blind from birth. **أَكْمَةٌ** مادرزاد اندھا

Hiding places, shelters. **أَكْذَانٌ** (كن) پناہ گاہیں چھپنے کی جگہیں

One who is covered over or hidden. **مَكْنُونٌ** چھپایا گیا

Covers. **أَكْنُو** غلافوں

Ye have hidden. **أَكْنْتُمْ** تم نے چھپا رکھا ہے

She veils herself or shelters. **تَكْنِي** وہ اپنے کو چھپاتی ہے

إِل (ال) A Deity, God

إِل (ال) Belabomb

إِل (ال) A Deity, God

O God. **إِلَهٍ** (ال) اللہ

God. **إِلَهٌ** معبود

Two gods. **إِلَهَيْنِ** دو معبود

gods. **إِلَهَاتٍ** معبودوں

Take care. **أَلَا** خبردار

But. **إِلَّا** (لا) اگر

To, towards. **إِلَى** کو-طرف

Now, at present. **إِلَآنِ** (ان) الآن

The heart, intellect, understanding. **أَلْبَابٌ** (لب) تمیز-شعور

He picked up, or lighted on. **أَلْتَقَطَا** (لقط) اٹھنے اور لکھایا

He picks up or lights upon. **يَلْتَقِطُ** پوٹھاتا ہے

We have diminished. **أَلْتَمْنَا** (الت) کھٹتے

He defrauds. **يَلْتُ** وہ کم کرتا ہے

To deviate from that which is lawful. **أَلْتَحَانُ** (لحد) حق سے گزرتا

A place of refuge. **مَلْتَحِدٌ** پناہ گاہ

They deviate from the right. **يَلْتَحِدُونَ** حق سے پھرتے ہیں

To cover, importune. **أَلْتَحِفُ** (لحف) چھپاتا

Overtake, join or reach. **أَلْتَحِقُ** (لحق) پھرتے

Ye overtook or joined. **أَلْتَحِقْتُمْ** تم نے ملایا

We joined. **أَلْتَحِقْنَا** ملے

They joined. **يَلْتَحِقُونَ** ملے

۱۰۰۰۰ Illiterate. ان پڑھے

۱۰۰۰۰ That, which. چوکڑی

۱۰۰۰۰ Whether. اگر

۱۰۰۰۰ Before. آگے

۱۰۰۰۰ A leader in religion. مذہب کا پیشوا

۱۰۰۰۰ (Amen) A deposit, security. سپرد کی ہوئی شے

۱۰۰۰۰ Trusts, covenants. چیزیں سپرد کی ہوئیں

۱۰۰۰۰ Trustworthy, faithful, a treasurer. امانت دار

۱۰۰۰۰ Shelter, protection. حفاظت-پناہ

۱۰۰۰۰ Peace, satisfaction. اطمینان-آرام

۱۰۰۰۰ One who protects. جو امن میں رکھتا ہے

۱۰۰۰۰ They keep without fear. وہ بیخوف ہوتے ہیں

۱۰۰۰۰ A place of shelter or protection or security. حفاظت کی جگہ یا جائے پناہ

۱۰۰۰۰ One who is given protection or secured. پناہ دیا گیا

۱۰۰۰۰ He believed. اوسنے اعتبار کیا

۱۰۰۰۰ I believed or trusted. میں نے اعتبار کیا

۱۰۰۰۰ Thou keepest a trust. تو امانت رکھتا ہے

۱۰۰۰۰ Ye have secured peace. تم خاطر جمع ہوئے

۱۰۰۰۰ To believe. یقین کرنا مان لینا

۱۰۰۰۰ He believed. وہ ایمان لایا

۱۰۰۰۰ They believed. وہ ایمان لائے

۱۰۰۰۰ She believed. وہ ایمان لائی

۱۰۰۰۰ Ye believed. تم ایمان لایے

۱۰۰۰۰ I believed. میں ایمان لایا

۱۰۰۰۰ We believed. ہم ایمان لائے

۱۰۰۰۰ Believe. ایمان لاؤ

۱۰۰۰۰ Thou believest. تو ایمان لاتا ہے

۱۰۰۰۰ All those women. وہ سب عورتیں

۱۰۰۰۰ Thousand. ہزار

۱۰۰۰۰ Two thousand. دو ہزار

۱۰۰۰۰ Thousands. ہزاروں

۱۰۰۰۰ United, reconciled. جوڑا یا آلت ڈالی

۱۰۰۰۰ Thou hast united. تونے جوڑا یا آلت ڈالی

۱۰۰۰۰ Those two joined. وہ دونوں ملے

۱۰۰۰۰ They found. انہوں نے پایا

۱۰۰۰۰ She makes a compact. وہ آلت دیتی ہے یا ملاتی ہے

۱۰۰۰۰ Reconciled. ملائی گئی

۱۰۰۰۰ He reconciles or joins. وہ ملاتا یا جوڑتا ہے

۱۰۰۰۰ He has moved in my heart. اوسنے دل میں ڈالا

۱۰۰۰۰ (Elisha) Elisha. البشع نبی

۱۰۰۰۰ Painful, to suffer. دردناک-سخت

۱۰۰۰۰ Ye are being restless. تم بے آرام ہوتے ہو

۱۰۰۰۰ As being painful. دردناک ہوتے ہیں

۱۰۰۰۰ conjunction. حرف عطف

۱۰۰۰۰ Mothers. مائیں

۱۰۰۰۰ the metropolis, Mecca. مکہ دارالاسلام

۱۰۰۰۰ Ye are believing. تم ایمان لاتے ہو

۱۰۰۰۰ One who believes. ایمان لانے والا

۱۰۰۰۰ Those who believe. ایمان لانے والے

۱۰۰۰۰ f. Who believes. ایمان لانے والی

۱۰۰۰۰ Believing women. ایمان لانے والیاں

۱۰۰۰۰ We are believing. ہم ایمان لاتے ہیں

۱۰۰۰۰ He believes. وہ ایمان لاتا ہے

۱۰۰۰۰ f. Are believing or trusting. وہ بارور کرتی ہیں

۱۰۰۰۰ They do believe. وہ ایمان لاتے ہیں

۱۰۰۰۰ Do not protect. امن مت دو

۱۰۰۰۰ Amen. ایسا ہی ہو جیو

۱۰۰۰۰ Order, matter, thing. کام-حکم

۱۰۰۰۰ Matters. کام-احکام

۱۰۰۰۰ He commanded. اوسنے حکم دیا

۱۰۰۰۰ They ordered. انہوں نے ارشاد کیا

۱۰۰۰۰ Thou hast ordered. تونے حکم کیا

۱۰۰۰۰ I have ordered. میں نے حکم کیا

۱۰۰۰۰ They are ordered. وہ حکم کئے گئے

۱۰۰۰۰ I am being ordered. میں حکم کیا گیا

۱۰۰۰۰ We are commanded. ہم حکم کئے گئے

۱۰۰۰۰ A great commander. بڑا حکم کرنے والا

۱۰۰۰۰ She orders. وہ حکم کرتی ہے

۱۰۰۰۰ Ye are ordering. تم حکم کرتے ہو

۱۰۰۰۰ f. Thou orderest. تو حکم کرتی ہے

۱۰۰۰۰ He orders. وہ حکم کرتا ہے

۱۰۰۰۰ Are ordering. حکم کرتے ہیں

۱۰۰۰۰ A strange thing, a serious matter. انوکھا کام یا معاملہ

۱۰۰۰۰ Give counsel. صلاح دو

۱۰۰۰۰ Illiterate. ان پڑھے

۱۰۰۰۰ That, which. چوکڑی

۱۰۰۰۰ Whether. اگر

۱۰۰۰۰ Before. آگے

۱۰۰۰۰ A leader in religion. مذہب کا پیشوا

۱۰۰۰۰ (Amen) A deposit, security. سپرد کی ہوئی شے

۱۰۰۰۰ Trusts, covenants. چیزیں سپرد کی ہوئیں

۱۰۰۰۰ Trustworthy, faithful, a treasurer. امانت دار

۱۰۰۰۰ Shelter, protection. حفاظت-پناہ

۱۰۰۰۰ Peace, satisfaction. اطمینان-آرام

۱۰۰۰۰ One who protects. جو امن میں رکھتا ہے

۱۰۰۰۰ They keep without fear. وہ بیخوف ہوتے ہیں

۱۰۰۰۰ A place of shelter or protection or security. حفاظت کی جگہ یا جائے پناہ

۱۰۰۰۰ One who is given protection or secured. پناہ دیا گیا

۱۰۰۰۰ He believed. اوسنے اعتبار کیا

۱۰۰۰۰ I believed or trusted. میں نے اعتبار کیا

۱۰۰۰۰ Thou keepest a trust. تو امانت رکھتا ہے

۱۰۰۰۰ Ye have secured peace. تم خاطر جمع ہوئے

۱۰۰۰۰ To believe. یقین کرنا مان لینا

۱۰۰۰۰ He believed. وہ ایمان لایا

۱۰۰۰۰ They believed. وہ ایمان لائے

۱۰۰۰۰ She believed. وہ ایمان لائی

۱۰۰۰۰ Ye believed. تم ایمان لایے

۱۰۰۰۰ I believed. میں ایمان لایا

۱۰۰۰۰ We believed. ہم ایمان لائے

۱۰۰۰۰ Believe. ایمان لاؤ

۱۰۰۰۰ Thou believest. تو ایمان لاتا ہے

۱۰۰۰۰ All those women. وہ سب عورتیں

۱۰۰۰۰ Thousand. ہزار

۱۰۰۰۰ Two thousand. دو ہزار

۱۰۰۰۰ Thousands. ہزاروں

۱۰۰۰۰ United, reconciled. جوڑا یا آلت ڈالی

۱۰۰۰۰ Thou hast united. تونے جوڑا یا آلت ڈالی

۱۰۰۰۰ Those two joined. وہ دونوں ملے

۱۰۰۰۰ They found. انہوں نے پایا

۱۰۰۰۰ She makes a compact. وہ آلت دیتی ہے یا ملاتی ہے

۱۰۰۰۰ Reconciled. ملائی گئی

۱۰۰۰۰ He reconciles or joins. وہ ملاتا یا جوڑتا ہے

۱۰۰۰۰ He has moved in my heart. اوسنے دل میں ڈالا

۱۰۰۰۰ (Elisha) Elisha. البشع نبی

۱۰۰۰۰ Painful, to suffer. دردناک-سخت

۱۰۰۰۰ Ye are being restless. تم بے آرام ہوتے ہو

۱۰۰۰۰ As being painful. دردناک ہوتے ہیں

۱۰۰۰۰ conjunction. حرف عطف

۱۰۰۰۰ Mothers. مائیں

۱۰۰۰۰ the metropolis, Mecca. مکہ دارالاسلام

آمنت A curve, any thing which shows ups and downs. ڈھلوان لپلا
 آمنة (اماء) A maid servant. باندی
 آماء Maid servants. باندیان
 آمازا (ماز) Be separated. الگ ہو جاؤ
 آمازا Discriminate, distinguish. بہت جائے
 آمازا Distinguishes or separates. جدا کرتا ہے
 آماحن (معن) Examined. آزمایا
 آماحنوا They tested or examined. اونہوں نے آزمایا
 آماق (ماق) Poverty. مفلسی
 آماعہ Intestines, bowels. آنتیں
 آماہ (آمد) A space, a term. فاصلہ-فرق
 آمس Yesterday. کل جو گذر گیا
 آمشاج (مشج) Mingled. ملے جلے ہوئے
 آمل Hope. امید-آرزو
 آن (ان) That, in order that, lest. جو
 آن If. اگر
 آن { That, since, because. اسلئے-جو
 آن { Verily, indeed. تحقیق
 آنما } Only. صرف
 آنما }
 آنہ Indeed, verily. سچ صحیح فی الحقیقت
 آناب Repented. توبہ کی یا رجوع ہوا
 آنابوا They repented or turned or inclined. اونہوں نے توبہ کی وہ رجوع ہوئے
 آنبا We have repented or inclined. ہم رجوع ہوئے یا توبہ کی
 آنیب He repents. وہ توبہ یا رجوع کرتا ہے

آنیب I am repenting. توبہ یا رجوع کرتا ہوں
 آنیب One who repents. توبہ یا رجوع کرنے والا
 آنیبوا Repent ye. تم توبہ یا رجوع کرو
 آنیبین Those who turn to God with repentance. جو خدا کی طرف توبہ کر کے رجوع ہوتے ہیں
 آنث (انث) Women. عورتیں
 آنثی Woman. عورت
 آنثین Two women. دو عورتیں
 آنام (انام) Creation or creatures. خلقت یا مخلوقات
 آنابجست f. Burst forth. پھوٹ نکلی (بجس)
 آنث Thou one man. تو ایک مرد
 آنث Thou one woman. تو ایک عورت
 آنتم All ye men. تم سب مرد
 آنتما Ye two men. تم دو مرد
 آنثرت f. Has scattered. پراگندہ ہوئی یا جھڑ گئی
 آنثور Spread open. پراگندہ
 آنقام (نقم) Avenge, defence. عوض-بدلہ
 آنقما We have defended. ہم نے بدلہ لیا
 آنقمون f. Who avenges. بدلہ لینے والی
 آنقم He avenges. بدلہ لیتا ہے
 آنقماوا They have created enmity. انہوں نے دشمنی کی
 آنجیل (نجیل) The Gospel. انجیل شریف-خوش خبری
 آنحر (نحر) Do sacrifice (by cutting the jugular vein.) قربانی کر
 آنہ (ند) Alike, equal, a match. مانند-شریک-برابر
 آنساض (ساض) Withdrawn. نکالا یا گذارا

آنس Men. (انس) ماس
 آنصتوا Be quiet. (نصت) ہنسنا
 آنطق (نطق) He caused to utter. سبب ہوا
 آنطق He speaks. کہتا ہے یا کہتا ہے
 آنطقون They speak. کہتے ہیں یا کہتے ہیں
 آنطق Language, logic. بات
 آنطقون Ye speak. کہتے ہو یا کہتے ہو
 آنقذوا Pass ye beyond. (نقد) تم نکلو
 آنقصام (قصم) The act of being broken. ٹوٹنا
 آنقذ He has set free. (نقد) رستہ خلاص کیا
 آنقذ Thou shalt set free. خلاص کریگا
 آنقذون Are delivering or setting free. لائے ہیں-چھٹکارا دیتے ہیں
 آنقذون They will be delivered. نکالے جائینگے یا چھڑے جائینگے
 آنساقذوا Cannot set free. چھڑا نہیں سکتے
 آنکدر (کدر) Got muddy or dirty. میلہ ہو گئے
 آنی (انی) In what way. کیونکر-کہاں
 او (اد) Either, or. یا
 او Or, what. یا-کیا
 اوآ (آہ) A compassionate person. دل یا نرم دل
 اوبار (وبر) Soft hair of camel. کئی ملائم پشم
 اوتان (وتد) Stakes, pegs. پھینکے-پھینکیں
 اوثان (وثن) Idols. بتوں
 اوجس (وجس) Conspired. سازش

لوگ (قلم) People.

خاندان-ایہال Family.

پکارا گیا۔ آواز دیا گیا۔ (ہل) Was called.

First day's moon, new moon. اہل

نیا یا پہلی شب کا چاند

Yea verily. (ای) پیشک۔ البتہ

Whosoever. (آی) کونسا۔ کون۔ کس۔ کیا

That which. (ایما) جو نسبی

The act of returning. (آب) پھرنا

A place of return. (ماب) پھرنے کی جگہ

To this. (ایا) اسکو

To both of them. (ایہما) اُن دونوں کو

To all of them. (ایہم) ان سب کو

To thee. (ایاکا) تجھکو

To both of you. (ایاکما) تم دونوں کو

To all of you. (ایاکم) تم سب کو

To me. (ایای) مجھے

To us. (ایانا) ہمیں

An unmarried man or woman whether single or widowed. (آم) آیاہلی

پے نکاح مرد یا عورتیں خواہ کنواریے ہوں یا رندڑیے

When. (ایان) کب

Strengthened. (آد) ایڈ

مدد کی۔ طاقت دی یا زور دیا

I strengthened. (آدت) میں نے مدد یا طاقت دی یا زور دیا

We strengthened. (آدنا) ہم نے مدد دی۔ طاقت دی یا زور دیا

Helps, strengthens. (آدو) قوت دینا ہے۔ مدد کرتا ہے

Watchful, awake. (ایقظ) جاگنے والے

Thick wood or jungle. (ایکٹ) نہایت گنجان۔ جنگل

Where, whither. (این) کہاں

Wherever. (ایمما) جس طرف

O thou. (آیہ) ای تو۔ او تو

O thou. (آیہ) ایہ

ب

To draw upon one's-self. (بآ) اوسنے حاصل کیا یا کمایا

They have drawn upon themselves. (بآوا) انہوں نے کمایا

He gave a place or dwelling. (بآو) اوس نے جگہ دی

We gave shelter. (بآوا) ہم نے پناہ یا جگہ دی

He occupied the dwelling. (بآوا) اوس نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

They both occupied the place. (بآوا) ان دونوں نے جگہ اختیار کی

Thou art making room. (بآو) تو جگہ بناتا ہے

One who is given possession of a dwelling. (بآو) جگہ دیا گیا

We will provide habitation. (بآو) ہم جگہ دینگے

We occupy a dwelling. (بآو) ہم جگہ اختیار کرتے ہیں

Thou art drawn. (بآو) تو رجوع کرتا ہے

Severity, vengeance, valour, force. (بأس) زور۔ سختی۔ خوف

Misfortune, severity. (بأسا) بد قسمتی۔ سختی

Grievous. (بئیس) نہایت سخت یا شدید

Thou art grieved. (بئیس) تو غمگین ہوتا ہے

Bad, wretched, miserable. (بئس) خراب۔ برا

A door, gate. (باب) دروازہ

Babel. (بابل) ایک شہر کا نام

One who frets himself to death. (بأخ) اپنا گلا گھونٹ کر مرنے والا

Belonging to desert. (بدا) جو جنگلی ہو

Dwellers in the country. (بَادُونَ) جو لوگ جنگل میں رہیں

At first thought. (بَادِي) ظاہراً

Has appeared. (ف. بَدَتْ) ظاہر ہوئی

To make to appear. (بَدَّ) ظاہر کیا جاوے

تَبَدُّي f. Thou art manifesting.

تو ظاہر کرتی ہے

تَبَدُّون Ye are manifesting. تم ظاہر کرتے ہو

مَبْدِي One who manifests. ظاہر کرنے والا

يَبْدُونَ They manifest. وہ ظاہر کرتے ہیں

يَبْدِي He shows. وہ ظاہر کرتا ہے

يَبْدِينَ f. They manifest. وہ ظاہر کرتی ہیں

بَدْر A desert, a village. کانوں-جنگل

بَارِي (برا) One who produces, creates or creator. خالق پیدا کرنے والا

تَبَّرُّ Thou curest or cleanseest. تو چنگا کرتا ہے

بَرَّ Purified, cleaned, absolved. پاک کیا

أَبْرِي } I am cleansing or absolving.
میں پاک کرتا ہوں

بِرَاعَةٍ Freedom, immunity. فارغ خطی

أَبْرُونَ Absolved. پاک کئے گئے

بَرِي One who is disgusted or innocent. بیزار ہونے والا یا معصوم

بَرِيُونَ Disgusted or guiltless. بیزار ہونے والے یا بے عیب

بَرَاء One who is disgusted. بیزار ہونے والا

بَرَاء They who are innocent or disgusted. بیزار ہونے والے

تَبَرَّأْنَا We got disgusted. ہم بیزار ہوئے

تَبَرَّأَ He got disgusted. وہ بیزار ہوا

تَبَرَّأُوا They got disgusted. وہ بیزار ہوئے

تَبَرَّأْنَا We are disgusted. ہم بیزار ہوتے ہیں

نَبَرَّأْنَا We are creating. ہم پیدا کرتے ہیں (برا) نَبَرَّأْنَا

بَرِيَّة Creatures. خلقت

بَارِغٌ Rising. سورج چڑھتے ہوئے

بَارِغَةٌ f. Rising. چاند چڑھتے ہوئے

بَارِغٌ f. Tall. اونچی

بَثَّ Scattered, disseminated. (بث) بَثَّ

بَثَّ He dispersed or scattered. اوس نے بکھیرا

بَثَّ Sorrowful, scattered. غمناک یا پراگندہ ہوتا ہے

بَثَّ Scattered, spread abroad. دور تک پھیلا ہوا

بَثَّ f. Scattered. بکھیری ہوئی

بَحْرٌ Seas. سمندر

بَحْرَيْنِ Two seas. دو سمندر

بَحَارٌ } Seas. سمندروں

أَبْحَرٌ }

بَحِيرَةٌ She-camel with slit ears. جس اونٹنی کے کان کٹے ہوں

بَخِلٌ To be covetous, avaricious. کنجوسی

بَخِلٌ He was covetous or avaricious. اوسنے کنجوسی کی

بَخِلُوا They have reserved covetously. انہوں نے کنجوسی کی

يَبْخُلُ He covets. وہ کنجوسی کرتا ہے

يَبْخُلُونَ They are reserving covetously. وہ کنجوسی کرتے ہیں

بَخْسٌ Deficient, trifling. کم-کھوتا

تَبَخَّسُوا Ye diminish. تم گھٹاتے ہو

يَبْخُسُ He diminishes. وہ کم کرتا ہے

يَبْخُسُونَ They are being diminished. وہ کم کئے جاتے ہیں

بَدَأَ Begun. شروع کیا

بَدَّأُوا They begun. اونہوں نے شروع کیا

بَدَّأْنَا We begun. ہم نے شروع کیا

يَبْدُ Begins. شروع کرتا ہے

بَدْرٌ A well near Mecca. مکہ کے پاس ایک کنواں ہے

بَدَارٌ Hastily

بَدَّعَ Creator

بَدَّعُوا They have brought novelty.

بَدَّلَ In exchange.

بَدَّلَ He has exchanged.

بَدَّلُوا They have exchanged.

بَدَّلْنَا We have exchanged.

بَدِّلْ Exchange thou.

أَبْدِلْ I will exchange.

تَبَدَّلْ Thou mayst exchange.

تَتَبَدَّلُونَ Ye will exchange.

تَبَدَّلْ An exchange.

تَبَدَّلْ f. Will be exchanged.

مُبَدِّلٌ One who exchanges.

يُبَدِّلُ He exchanges.

يُعْطِيْهُمُ He gives in exchange.

يُبَدِّلُونَ They are exchanging.

نُبَدِّلُ We are exchanging.

بَدَلٌ An exchange.

وَدَّعَا He exchanges.

يُبَدَّلُ Is being exchanged.

بَدَنٌ Body, person.

بَدَنٌ Camel sacrificed at Mecca.

بَرٌّ Pious.

بَرٌّ Justly, goodness.

أَبْرَارٌ Pious people.

بَرَّةٌ

تَبَرَّأْنَا Ye are apostatizing.

that which cools. ٹھنڈا پانی جو چہرہ ٹھنڈا کرتی ہے

اُتارنا They went forth. وہ نکلے

Was manifested. وہ نکالی گئی

In an extended form, like a plain. میدان یا کھلی جگہ

Those who are going forth or being manifested. کہلے اور ظاہر ہونے والے

A tower, sign of the Zodiac. تاروں کے گھر

Having an ostentatious manner. ظاہری آرائش دکھانا

f. Having an ostentatious manner. آرائش دکھاتی ہیں

A partition, the abode of departed spirits, Hades. وہ مقام جہاں روحیں رہتی ہیں

Lightning. بجلی

f. Dazzled, astonished. چکا چوندھی

Brocade, silk of a thick texture. ایک قسم کا ریشمی کپڑا

Blessings. برکتیں

He has blessed. اوسنے برکت دی

We have blessed. ہم نے برکت دی

He was blessed. وہ بزرگ ہوا

Blessed. برکت دیا گیا

f. Blessed one. برکت والی

One who is blessed. برکت دیا گیا

Witness, proof. دلیل-گواہ (برہن)

Two witnesses. دو گواہ

A carpet. بستر یا چھوڑا

excellence, an increase of

He has extended. اوسنے کشادہ کیا

Thou hast stretched. تو نے پھیلا یا

Thou stretchest. تو کھولتا ہے

One who stretches. کھولنے والا

Those who extend. کھولنے والے

Two extended ones. دو کھولے ہوئے

He extends. وہ کھولتا ہے

They are extending. وہ کھولتے ہیں

He puts on an austere countenance. منہ تہتیا یا

Are dismal looking. منہ بگاڑے ہیں

A man. آدمی (بشر)

Two men. دو آدمی

Has preached good tidings. خوشخبری سنائی

Good tidings. خوشخبری

To preach good tidings. خوشخبری سنانا

Preachers of good tidings. خوشخبر سنانے والا

They have preached good tidings. اونہوں نے خوشخبری سنائی

Ye go into your wives. تم اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہو

We have announced good news. ہم نے خوشخبری دی

He was given good news. وہ خوشخبری سنایا گیا

Ye have announced good news. تم نے خوشخبری سنائی

Ye are glad. تم خوش ہو

Thou shalt preach good news. تو خوشخبری سناگا

Ye shall preach good news. تم خوشخبری سناؤ گے

One who announces joyful news. خوشخبری دینے والا

Those who announce joyful news. خوشخبری دینے والے

f. Those who announce joyful news. خوشخبری دینے والیاں

We are announcing joyful news. ہم خوشخبری دیتے ہیں

Is being given good news. خوشخبری دیا جاتا ہے

Are glad. خوش ہوتے ہیں

f. One who rejoices. خوش ہونے والی

An eye. آنکھ (بصر)

One who sees. دیکھنے والا

f. One who sees. دیکھنے والی

Arguments or proofs. دلیلیں

f. She has looked or seen. اوسنے دیکھا

I have seen. میں نے دیکھا

He has seen. اوسنے دیکھا

We have seen. ہم نے دیکھا

Look or see thou. تو دیکھ

One who sees or enables one to see. کیا اسکو دکھلاؤ گے-کیا خوب دیکھنے والا

Eyes. آنکھیں

A manifest demonstration. صاف صاف سمجھانے کی دلیل

Thou shalt see. تو دیکھیگا

Ye are seeing. تم دیکھتے ہو

One who causes to see. دکھانے والا

Those who causes to see. دکھانے والے

f. One who cause to see. دکھانے والی

Is Seeing. دیکھتا ہے

f. sees or looks. وہ دیکھتی ہے

They are showing. وہ دکھاتے ہیں

Clover or far-riding persons. **بصل** خوب دیکھنے والے
 An onion. **بصل** پیاز
 Goods, sum of money, merchandize. **بصاعة** مال-اسباب-پولنجی
 A small number. **بضع** چند یا کئی ایک
 Intimacy. **بطانة** دوستی یا دلہی محبت
 Lining. **بطائن** استر
 Belly. **بطن** پیٹ
 Bellies. **بطون** پیٹیں
 Hidden. **باطن** چھپا ہوا
 Hidden. **باطنة** چھپی ہوئی
 Got hidden. **باطن** پوشیدہ ہوا
 To be insolent. **بطر** اترانا
 Became insolent. **بطرنت** اترائی
 To lay hold. **بطش** گرفت کرنا یا پکڑنا
 Hold up. **بطشة** گرفت کر یا پکڑ
 Ye held. **بطشتم** تم نے پکڑا
 He seizes with severity. **یبطش** وہ گرفت کرتا یا سخت پکڑتا ہے
 We are taking vengeance. **یبطشون** ہم بدلہ لیتے ہیں
 We seize with severity. **نبطش** ہم سخت پکڑتے ہیں
 Become vain. **باطل** وہ فضول یا ناچیز ہوا
 That which becomes vain. **باطل** ناچیز ہونے والا
 Ye are frustrating. **تبطلوا** تم ناچیز کرتے ہو
 Those who deal in vanities. **مبطلون** بے مقصد یا بے مصرف کام کرنا
 Makes ineffectual. **یبطل** بے اثر یا ضائع کرتا ہے
 To send. **بعث** بھیجنا
 He raised. **بعث** اوسنے اٹھایا

He sends. **بعث**
 Is being raised (from death). **بعث** اٹھایا جاتا ہے
 Are being raised. **یبعثون** اٹھائے جاتے ہیں
 We will raise up. **نبعث** ہم اٹھائیں گے
 One who is raised. **مبعوثون** اٹھاتی ہوئی
 Ye will be raised from the dead. **تبعثون** تم مردوں میں سے کھڑے کئی جاؤ گے
 Thou hast rose. **بعث** تو اٹھا
 I shall be raised. **أبعث** میں اٹھایا جاؤں گا
 Raise up. **ابعدوا** اٹھاؤ
 We raised or lifted up. **بعثنا** ہم نے اٹھایا
 Have been raised. **مبعوثون** اٹھائے گئے
 He rose. **انبعث** وہ اٹھا
 He took forth or raised. **بعثر** اوسنے اٹھایا
 He is taken up or raised. **بعثر** وہ اٹھایا گیا
 Is taken up or raised. **بعثرت** وہ اٹھائی گئی
 After. **بعث** پھر-پہلے
 A distance. **بعث** فاصلہ
 Got far off. **بعثت** دوری ہوئی
 Got away. **بعثت** دور ہوئی
 Far away distant, remote. **بعید** نہایت دور
 Separate. **باعد** دوری ڈال
 Are removed far away. **مبعدون** دور کئے گئے
 A portion of anything. **بعض** کسی شے کا ٹکڑا
 A gnat. **بعوض** مچھڑ
 A husband. **بعول** خاوند
 Husbands. **بعول** شوہروں
 A full grown camel. **بعیر** بڑی عمر کا اونٹ

He has desired. **ابتغى**
 They have desired. **ابتغوا**
 Thou hast desired. **ابتغيت**
 I am desiring. **أبتغي**
 Search thou. **ابْتَغِ**
 We are desiring. **نبتغي**
 Search ye. **ابتغوا**
 Thou mayst desire. **تبتغي**
 Ye are desiring. **تبتغون**
 We are desiring. **ذبتغي**
 He is desiring. **يبتغ**
 They are desiring. **يبتغون**
 Is suitable, expedient, desirable. **يبغى**
 A rebel, a harlot. **بغى**
 He transgressed. **بغى**
 They acted insolently. **بغوا**
 He acted unjustly. **بغت**
 He was treated unjustly. **بغى**
 Rebels. **بغى**
 To pass beyond, to exceed. **يبغى**
 They both are passing beyond bounds. **يبغيان**
 They are passing beyond bounds. **يبغون**
 One who rebels, desirably. **باغ**
 Fornication. **بغاء**

But, not so, but, nay rather. **بل** (بل) **بل**
 مگر۔ بلکہ
 To try, prove, experience. **بلا** (بلا) **بلا**
 تجربہ کرنا۔ آزمانا
 We have tried, tested. **بلونا** ہم نے جانچا
 He tried, tested. **ابتلا** اوسنے آزمایا
 Was tried. **ابتلا** وہ آزمایا گیا
 You examine. **ابتلاوا** تم آزماؤ
 They are being tried. **تبلوا** وہ آزمائے جاتے ہیں
 To be worn out. **ابتلا** یہہ پرانا ہوتا ہے
 Is being tried. **تبتلا** وہ جانچی جاتی ہے
 You are being tried. **تبتلوا** تم آزمائے جاتے ہو
 One who tests or tries. **متبتلی** آزمانے والا
 Testers, examiners. **متبتلین** جانچنے والے
 We are trying or testing. **تبتلی** ہم جانچتے ہیں
 We will try. **تبتلوا** ہم جانچینگے
 He is trying. **تبتلوا** وہ آزمانا ہے
 They are trying. **تبتلون** وہ آزمانے ہنیں
 He tries. **تبتلی** وہ آزمانا ہے
 A warning, that which is published. **بلاغ** (بلاغ) **بلاغ**
 پہونچانا۔ آگاہ کرنا
 To arrive at. **بلاغ** پہونچا
 Both arrived. **بلاغ** دونوں پہونچے
 They arrived or reached. **بلاغوا** وہ پہونچے
 Reached. **بلاغت** وہ پہونچے
 They fulfilled. **بلاغن** انہوں نے پوری کی
 Thou hast recieved. **بلاغت** تو نے پایا
 We have attained, arrived. **بلاغنا** ہم پہونچے
 Publish or deliver thou. **بلاغ** تو پہونچا دے
 Affecting, eloquent. **بلاغ** موثر۔ فصیح

I will arrive or attain. **ابلغ** میں پہونچونگا
 They have executed or fulfilled. **ابلغوا** انہوں نے پہونچایا یا پورا کیا
 I have made known or delivered. **ابلغت** میں نے پہونچا دیا
 Deliver thou. **ابلغ** تو پہونچا
 I am arriving or attaining. **ابلغ** میں پہونچتا ہوں
 One who attains. **بالغ** پہونچنے والا
 Those who attain. **بالغون** پہونچنے والے
 Consummate. **بالغة** کامل عقل
 A goal, perfection. **مبلغ** کسی حد کو پہونچانا
 Attains reaches. **یبلغ** وہ پہونچاتا ہے
 They both will reach or attain. **یبلغا** وہ دونوں پہونچینگے
 They will reach or attain. **یبلغوا** وہ پہونچینگے
 Those who publish or deliver. **یبلغون** وہ جو پہونچاتے ہیں
 Shalt be equal. **تبلغ** برابر ہوگا یا پہونچینگا
 Ye are arriving or attaining. **تبلغوا** تم پہونچتی ہو
 A city, country, region. **بلد** (بلد) **بلد**
 حصہ۔ شہر۔ ملک
 One city, territory. **بلد** ایک شہر۔ مملکت
 Cities, regions. **بلدان** شہروں۔ ملکوں
 Yea, surely, verily. **بلی** (بلی) **بلی**
 A ceiled roof. **بنا** (بنا) **بنا**
 A builder. **بنا** عمارت بنانے والا
 They built. **بنوا** انہوں نے بنایا
 He built. **بنی** اوسنے بنایا
 A building. **بنیان** عمارت
 We built. **بنینا** ہم نے بنایا
 You are building. **تبنون** تم بناتے ہو

which is left, a relic. **باقی** باقی رہنے والا۔ بچا ہوا
 which remaineth. **باقی** جو بچ رہا
 permanent, constant. **باقی** مدامی۔ ہمیشہ رہنے والا
 Survivors, rest. **باقی** جو باقی رہگئے۔ بچنے والے
 That which remains, constant. **باقی** پیچھے رہنے والی
 Which are permanent. **باقی** f. Which are permanent.
 باقی ہوں۔ جو مدامی ہیں
 Permanent. **باقی** پائدار
 It leaveth. **باقی** f. It leaveth. باقی رکھینگے
 Shall remain. **باقی** ہمیشہ بچ رہینگا
 Ox. **بقر** (بقر) **بقر**
 ایک بیل **Ab ox.**
 گاؤں **Cows.** **بقرات**
 A corner of ground. **بقر** جگہ کا کونہ
 Herbs, pot-herbs. **بقر** (بقر) **بقر**
 سبزی۔ ساگ
 Wept. **بکی** (بکی) **بکی**
 Those who mourn. **بکی** رونے والے
 Are weeping. **بکی** رونے ہیں
 To cause to weep. **بکی** رونے کا باعث ہونا
 A virgin, a young heifer. **بکری** (بکری) **بکری**
 کنواری
 in the morning, morning. **بکر** صبح
 morning. **بکر** وقت صبح
 of Mecca. **بکر** مکہ کا نام

Build thou. تو بنا
You build. تم بناؤ
Son. بیٹا
Sons. بیٹے
Younger son. چھوٹا بیٹا

Daughters. بیٹیاں
Daughter. بیٹی

Son. بیٹا
Son. بیٹا
Two sons. دو بیٹے

Sons. بیٹے
Daughter. بیٹی

Two daughters. دو بیٹیاں

Perdition. (بار) ہولناکت-خرابی

Wicked, one who is lost.

برباد شدہ-بدذات-دشمن

Will be lost. برباد ہوگا

Thou shalt be lost. تو برباد ہوگا

Was confounded. (بہت) حیران ہوا

f. Suddenly caught them with astonishment. وہ ناگہان پکڑی گئیں

Slander, calumny. لویب-جھوٹ-الزام

Beauty, delight. خوشی-خوبی (بہج) بھججہ

Beautiful, delicious. خوش کرنے والا

An animal, cattle, brute, beast. (بہم) بھیمجہ

چارپایہ جانور-مردیشی

A well. کنواں (بار) بئر

Houses. گھروں (بات) بیت

When slept by. شب باشی کرتے ہوئے

Have meditated or consulted by night. رات کو مشورہ کیا

A house, abode, family. خاندان-گھر

Who pass the night. رات گزارتے ہیں

Are attacking by night. رات کو حملہ کرتے ہیں

We will attack by night. ہم رات کو حملہ کریں گے

To speak. بات کرنا. بولنا (بان) بیان

Between. درمیان

Open, manifest, evident. ظاہر-صاف کھلی

They declared. اونہوں نے بیان کیا

We manifested, declared. ہم نے بیان کیا یا ظاہر کیا

Was manifested. وہ ظاہر ہوا

Proofs, arguments. بیانات

Manifested proof. ظاہر ہوا ثبوت

Declared. (میں) نے کہا

Declared. (میں) نے کہا

We are declaring or manifesting. ہم ظاہر کرتے ہیں

Evident, manifest. ظاہر

Eggs. انڈے (بیض) بیض

White things. سفید چیزیں

White, clear. صاف-سفید

Will be white. سفید ہوگا

Sold, disposed off. بیچا-الگ کیا (باع) بیع

You have sold. تم نے بیچا

To make a contract by striking hands of person or a thing. کسی چیز پر یا ہاتھ پر ہاتھ مار کر سودا کرنا

Seller. بیچنے والا

Ye have bartered. تم نے خرید و فروخت کی

Are exchanging, merchandizing. خرید و فروخت کرتے ہیں

Are declaring their faith or making promise of obedience. فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں

Churches and schools. مدرسے یا مدرسے

Those who repent. توبہ کرنے والے

Repenting women. توبہ کرنے والی

To repent. توبہ کرنا

You repent. تم نے توبہ کی

An ark coffin. (تابوت) تابوت

کشتی-صندوق جسیر مردہ کو لیجاتے ہیں

Repented. اوسنے توبہ کی (تاب) تاب

Two repented. دو نے توبہ کی

They repented. اونہوں نے توبہ کی

Repents. توبہ کرتا ہے

They are repenting. وہ توبہ کرتے ہیں

Thou turned. تو پھرا

I repented. میں نے توبہ کی

Ye repented. تم نے توبہ کی

Those who repent. توبہ کرنے والے

Repenting women. توبہ کرنے والی

To repent. توبہ کرنا

You repent. تم نے توبہ کی

conversion (unto Him
I return).
پہرنے کی جگہ (خدا کی طرف رجوع کرنے)
One who repents. توبہ کرنے والا
Those who repent. توبہ کرنے والے
f. You both are repenting.
تم دونوں توبہ کرتے ہو
A time. ایک وقت (تار)
He shall perish. وہ ہلاک ہوگا (تہ)
f. Shall perish. توت گئی
Destruction. ہلاکت
A loss, detriment. توڑنا
Destruction. تباہی ہلاکت (تہر) تباہ
We destroyed. ہم نے ہلاک کیا
Are destroying. ہلاک کرتے ہیں
To destroy. ہلاک کرنا
To get rid of. چھوڑنا (بتل) تبدیل
Make complete separation from the
world and devote thyself wholly
to God's Service.
تو دنیا سے چھوٹ کر خدا کی طرف رجوع کر
To waste profusely. (بذر) تبذیر
بہجا خرچ کرنا
Thou art wasting profusely.
تو بہجا خرچ کرتا ہے
Spendthrifts. بہجا خرچ کرنے والے
Smiled. مسکرایا (بسم) تبسم
Follower. تابع (تبع) تبع
وہ تابع ہوئے
They followed. تبعوا
One who follows. پیروئی کرنے والا
Followers. پیروئی کرنے والے
To follow. پیروئی کرنی
وہ تابع ہوا
They followed. وہ پیچھے چلے

تو نے پیروئی کی
You followed. تم نے پیروئی کی
I followed. میں نے پیروئی کی
We followed. ہم نے پیروئی کی
I am following. میں تابعداری کرتا ہوں
Follow thou. تو تابع ہو
You follow. تم تابعداری کرو
He followed after. وہ پیچھے چلا
They were followed. وہ پیچھے چلائے گئے
Thou follow. تم پیروئی کرو
Lest thou follow. مبادا تو پیچھے آریے
You both will or shall follow. تم دونوں پیروئی کرو گے
You are following. تم پیچھے چلتے ہو
In succession, consecutively. پھے در پھے
They were persued. وہ پیچھا کئے گئے
We are following. ہم پیچھا کرتے ہیں
We bring in the latter times. ہم پیچھے سے لاتے ہیں
Follows. پیچھا کرتا ہے
They are following. وہ پیروئی کرتے ہیں
Title of the king of the Himayarites. یہہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے
A follower. پیچھے چلنے والا
Was perished. وہ خراب یا ہلاک ہوگئی
Are removed from. جدا ہوتے ہیں
One after another. پھے در پھے

Blame. الزام (ترب) تثریب
Bargain, merchandise, mer-
chandizing. بیوپار (تجرا) تجارۃ
You are making your suppli-
cation. تم چلاتے ہو
Are making supplication. زاری کرتے ہیں
They searched. اونہوں نے تلاش کیا
You are urging one an-
other. تم آپس میں تاکید کرتے ہو
Stirreth, solituous. آمادہ-بر افروختہ
You are restraining or
binding. تم بند کرتے ہو
He may restrain. وہ روکے
Below, down. (تحت) تحت
نہایت گہری میں-نیچے
Thou art shaking. تو ہلاتا ہے
You are shaving. تو ہلاتا ہے
حجامت کرنے ہو
Those who shave their heads. سر مندوانے والے
Thou art avoiding. تو کنارہ کرتا ہے
Thou art conversing or
reading in a low tone. تو آہستہ پڑھتا ہے
Are speaking in a low voice. چپکے کہتے ہیں
Thou art writing. تو لکھتا ہے
You are storing. تم ذخیرہ کرتے ہو
Are driving. وہ ہانکتی ہیں
Will forget. بھول جائگی
Breast bones. سینہ کی ہڈیاں
Dust, earth. خاک-مٹی

مترية One who lieth on the ground poor
گرہا خاک میں پڑا ہوا

انراب Of an equal age. ہمیں

تہرنا To wait. (ربص) تربص

تم نے انتظار کیا You waited. تربصم

تم انتظار کرتے ہو You are waiting. تربصون

One who expects or waits. متربص
انتظار کرنے والا

Those who wait. متربصون
انتظار کرنے والے

We are watching or waiting. متربص
ہم انتظار کرتے ہیں

He watches, expects or waits. متربص
وہ انتظار کرتا ہے

They are watching. متربصون
وہ انتظار کرتے ہیں

Should watch. متربصن
انتظار کریں

Fell down. (ردی) تردی
گر پڑا

Who falls. متردیة f.
گرنے والی

Thou shalt be thrown down. تردین
تو بھینکا جاوے گا

Has brought to destruction. اردی
برباد کیا یا کھپایا

Left or abandoned. (ترک) ترک
ارسنے چھوڑا

I left. ترکت
میں نے چھوڑا

You left. ترکتم
تم نے چھوڑا

They left. ترکوا
انہوں نے چھوڑا

One who leaves, leaves out. تارک
چھوڑنے والا

Those who leave. تارکوا
چھوڑنے والے

Is being left. یترک
چھوڑا جاتا ہے

They will be left. یترکوا
چھوڑے جائیں گے

We are leaving. ندرک
ہم چھوڑنے ہیں

f. Is being despised. (زرا) تردری
وہ حقیر جانی جاتی ہے

Delay, dislike, wearied. یسام

Gets tired, dislikes, wearied. یسام
تھکا کرنا یا ٹھک جانا

Disdain. یسامون
دق ہو جاتے ہیں

(تسع) تسعة
Nine. نو

تسع

Ninety. نوبے
تسعون

You will shed blood. تسفکون
(سفک)

Who sheds blood. یسفک
تم خونریزی کر دے

Name of a fountain in Paradise. تسنیم
بہشت کے ایک چشمہ کا نام ہے

Thou causest them to rejoice over me. تسنمت
تو خوش کرتا ہے

Receiving with acclamation or respectfully. تصدی
تو عزت کے ساتھ قبول کرتا ہے

Clapping of the hands. تصدبة
تالی بجانا

Making a wry face. تصعر
تو گال پھلاتا ہے

Returns. (صار) تصیر
پہیرتی ہے

The act of going, a journey, to go, tend towards. مصیر
پہرنے کی جگہ

You are comitting evil. تعثوا
تم خرابی مچاتے پھرتے ہو

Destruction. (نعس) تعس
ہلاکت

You are ingenious, prudent, understanding. تعقلو
تم سمجھتے ہو

Modesty, abstain. (عف) تعفف
پرهیز کرنا نہ مانگنا

He abstains. یستعفف
وہ بچتا ہے

Are abstaining. یستعففون
بچتی ہیں

You turn aside. (عال) تعولوا
تم ایک طرف جھکتے ہو

Mutual deceit. (عین) تعابین
دھوکھا دینا

تفقدون You are searching. هو

You are searching. هو

You are searching. هو

You are searching. هو

He reviewed or searched. تفقد
تفقدون

You are searching. هو

You are searching. هو

We are searching. هو

You do understand. (فقد) تفقون
تفقدون

You do understand. هو

They do understand. هو

Will or shall learn. یفقدوا
جگہ پیدا کریں گے

We do understand. هو

You think that I dote. (فند) تفندون
تم مجھکو بھکا ہوا جانتے ہو

Trembling with terror. (اقشعر) تقشعر
دھکتے کھڑے ہوتے ہیں

Thou art being compelled or obliged. (کلف) تکلف
تو تکلیف دیا جاتا ہے

He compells or obliges. یكلف
وہ تکلیف دیتا ہے

A troublesome meddler. تکلف
تکلیف دہ

f. Will be cauterized. (کوی) تکوی
اڑی جائیگی

To read, rehearse. (تلا) تلاوة
پڑھنا

I read. تلاوت
میں نے پڑھا

Are rehearsed. (تلیت) تلیت
پڑھتی ہیں

Thou art reading. تلو
تو پڑھتا ہے

You are reading. تلوون
تو پڑھتے ہو

I will read. ایلو
میں پڑھوں گا

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

You read. ائل
تو پڑھتا ہے

وہ پوری ہوئی۔ Was fulfilled, ended. *ف. تممت*

پورا کرنے والا۔ One who completes. *متمم*

تمام کرنا ہے۔ Is completing. *يتم*

اوسنے پورا کیا۔ He ended, fulfilled. *اتم*

تو پورا کر۔ Thou complete or fulfil. *انتم*

میں نے پورا کیا۔ I fulfilled. *اتممت*

میں پورا کرونگا۔ I will fulfil. *اتم*

تم پورا کرو۔ You complete. *اتموا*

تم شام کرتے ہو۔ The evening overtaketh you. *ف. تمسون*

پھٹ پڑے۔ پاره پاره ہو جائے۔ Bursting or making distinction. *ف. تميز*

جدا کرتا ہے۔ Separates, discriminates. *يميز*

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. *ف. استأزرا*

تم بلاؤ گے۔ You will call. *ف. تنابزوا*

قبضہ کرنا۔ قبول کرنا۔ دست رس۔ The act of taking or receiving. *ف. تناوش*

تم تراشتے ہو۔ You are carving or scraping. *ف. تنحتون*

وہ تراشتے ہیں۔ They are carving. *ف. يندحتون*

تھکاتی ہے۔ Makes tired. *ف. تئوء*

تندور۔ An oven. *ف. التنور*

تم دو مرد سستی کرتے ہو۔ You two men are neglecting. *ف. تئذيا*

توروات۔ The Pantateuch. *ف. توروات*

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ Watch thou by night. *ف. تہجد*

تو رات کو جاگتا رہ۔ A fig. *ف. تین*

تیسرا۔ Third. *ف. ثالث*

تیسری۔ Third. *ف. ثالثة*

تین عورتیں۔ Three women. *ف. ثلاث*

ایک تہائی۔ One-third. *ف. ثلث*

دو تہائی۔ Two-thirds. *ف. ثلثان*

تین مرد۔ Three men. *ف. ثلاثي*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثون*

تیس۔ Thirty. *ف. ثلاثين*

ث

ہم ثابت اور برقرار رکھتے ہیں۔ We are setting fast. *ف. نثبت*

وہ مستقیم رکھتا ہے۔ He keeps firm. *ف. يثبت*

وہ قائم رکھتا ہے۔ He sets fast. *ف. يثبت*

وہ بٹھاتے ہیں۔ They are fixing. *ف. يثبتون*

تم ثابت رہو۔ You remain steadfast. *ف. اثبتوا*

آدمیوں کا گروہ۔ A company of men. *ف. ثبات*

چمکنا۔ Shining. *ف. ثاقب*

پار۔ Find, receive. *ف. ثقفتمو*

اگر تو پارے۔ If thou find. *ف. تثقفن*

اگر وہ پاریں۔ If they find or get. *ف. يثقفوا*

پائے جائیں۔ Are found. *ف. ثقفوا*

رہنے والا۔ A dweller. *ف. ثاوي*

رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. *ف. ثاوي*

رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. *ف. ثاوي*

رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. *ف. ثاوي*

دوسرا۔ Second. *ف. ثانی*

دو مرد۔ Two men. *ف. ثانی*

دو۔ Two. *ف. ثانی*

دو عورتیں۔ Two women. *ف. ثانی*

دہرائی گئی۔ Repeated portions. *ف. ثانی*

دو دو۔ Two and two. *ف. ثانی*

وہ انشا الہ کہہ کر فرق نہیں کرتے۔ They do not make exception by saying (D. V.) *ف. ثانی*

مضبوط تھرنا۔ Firm, steadfast. *ف. ثانی*

مستقل۔ قائم۔ Firmly, fixed. *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

قائم رکھنا۔ *ف. ثانی*

سالم-ازدھا (تعب) A serpent. **تعبان**

بھاری چیز (ثقل) A heavy thing. **ثقیل**

Two heavy things ("men and genii"). **اثنان**

بھاری چیزیں Heavy things. **ثقال**

وہ بھاری ہوئی f. Became heavy. **ثقلت**

کئی بوجھہ Loads or burdens. **اَثْقَال**

You inclined heavily. **اِنَّا قَلْتُمْ**

وہ بوجھل ہوئی f. Carried a burden. **اَنقَلت**

وزن-بات A weight. **مَثْقَال**

بوجھل کئے ہوئے Are laden. **مُنْقَلُونَ**

لدی ہوئی f. Loaded, burdened. **مُنْقَلَةٌ**

(ثَل) ثَلَّة } Then. پھر

(لَم) لَم } Then. پھر

اوسطرف-وہاں In that direction. **اِنَّ**

کیا-پھر What, then. **اِنَّ**

(ثَمَن) ثَمَانِي } Eight. آٹھ

ثَمَانِيَة } Eighty. اسی

اَسِي } Eighty. اسی

ایک کا آٹھواں حصہ One-eighth. **ثُمْن**

قیمت A prize. **ثَمَن**

(ثَمَر) ثَمَر } Fruit. پھل

ثَمَرَةٌ } Fruit. پھل

Name of a man. **ثَمُود**

Eagan & Co.

پتہ: ...

A reward. **ثَوَاب**

Rewarded, or repaid. **ثُوِبَ**

A reward, recompense. **مَثُوبَةٌ**

A place of resort. **مَذَابَةٌ**

Raiments. **ثِيَاب**

He rewarded. **اَنَابَ**

A married woman who left her husband after the first interview. **ثَيِّبَات**

ج

Goliath. **جَالُوت**

وہ آیا He came. **جَاءَ**

وہ آئے They came. **جَاءُوا**

میں آیا I came. **جِئْتُ**

وہ آئی She came. **جَاءَتْ**

تو آیا Thou came. **جِئْتَ**

ہم آئے We came. **جِئْنَا**

You came. **جِئْتُمْ**

لایا گیا Was brought. **جِي**

Petition was heard. **اُجِيبَتْ**

You were replied. **اُجِبْتُمْ**

I grant or bear. **اُجِيبُ**

You obey. **اُجِيبُوا**

You will answer. **تَسْتَجِيبُونَ**

He responded or answered. **اِسْتَجَابَ**

They responded. **اِسْتَجَابُوا**

I will hear. **اَسْتَجِيبُ**

You heard. **اِسْتَجِيبْتُمْ**

Hearken. **اِسْتَجِيبُوا**

Inclines to hear. **يَسْتَجِيبُ**

Are answering. **يَسْتَجِيبُونَ**

One who returns an answer. **مُجِيبٌ**

We answer. **نُجِبُ**

He answers. **يُجِيبُ**

They have cut. **اُجِبُوا**

Prostrated or lying on their breasts. **اُجِيبُوا**

In kneeling position. **جَائِثَةٌ**

One lying on his knees. **جَنِيٌّ**

A neighbour. **جَارٌ**

Neighbours, those who near to one another. **مُنْجَارَاتٌ**

One who turns aside. **جَائِرٌ**

Protect, deliver. **اَجْرٌ**

Asked protection. **اِسْتَجَارَ**

They explored. **اَجَسُوا**

He passed on. **اَجَاوزَ**

They both passed on. **اَجَاوزَا**

We forgive or pass. **اَجَاوَزْنَا**

They both passed on. **اَجَاوَزَا**

We forgive or pass. **اَجَاوَزْنَا**

We forgive or pass. **اَجَاوَزْنَا**

We forgive or pass. **اَجَاوَزْنَا**

جسے ہونے
 dark oistern with deep
 water.
 جس کتوں میں الدھیرا ہو اور پانی
 پیشانیوں Foreheads.
 پیشانی A forehead.
 نہایت زبردست Strong, powerful.
 زبردست لوگ The mighty ones.
 پہاڑ A mountain.
 کئی پہاڑ Mountains.
 جماعت-آدمی A crowd, a multitude.
 پیدائش Creation, generation.
 بت-جھوٹے معبود An idol, false deity.
 ایک فرشتہ کا نام The Angel Gabriel.
 دوزخ کے پانچویں طبقہ کا نام ہے Hell-fire, Hell.
 انہوں نے انکار کیا They refused or denied.
 وہ انکار کرتا ہے He refuses or denies.
 انکار کرتے ہیں Are refusing.
 بزرگی Majesty, glory.
 نیا New.
 راستے A track.
 بارشہ-دیوار Fence or a wall.
 آسان-بہت لائق More fitting or easier.
 دیواریں Fence or walls.
 جھگڑا-لڑائی Dispute.
 جھگڑنا-لڑنا To dispute.
 تو جھگڑتا ہے Thou disputest.

تم جھگڑتے ہو You are disputing.
 وہ جھگڑے He should dispute.
 تو نے جھگڑا کیا Thou disputed.
 تم نے جھگڑا کیا You disputed.
 تو جھگڑا کر Dispute thou.
 وہ جھگڑا کرتا ہے He is disputing.
 وہ جھگڑتے ہیں They are disputing.
 ٹوٹے ہوئے ٹکڑے A broken piece.
 ٹوٹا ہوا Broken.
 آگ کا ٹکڑا A burning coal or fire-brand.
 کھجور کا ٹھنڈ The trunk of the Palm tree.
 کھجور کے ٹھنڈے The body of the Palm tree.
 لڑکیاں Locusts.
 صاف زمیں جس میں نباتات نہں Dry ground bare of herbage.
 پانی کا گڑھا-حوض A water-worn bank of earth.
 بیشک Undoubtedly.
 گناہ Sin, guilt, aniquity,
 انہوں نے گناہ کیا They sinned.
 ہم نے گناہ کیا We sinned.
 گناہ گار Sinner, transgressor.
 گناہ گاران Sinners, transgressors.
 گناہ کرتا ہے He commits sin.
 تم نے زخم کیا You wounded or hurt.
 زخموں Wounds.
 اور انہوں نے حاصل کیا They acquired or deserved.
 شکاری جانور Beasts of prey.

وہ چلیں Ran or moved.
 کشتی An ark.
 کشتیاں Arks.
 جاری ہوتی ہے Flowing.
 دونوں جاری ہوتی ہیں They both are flowing.
 بہنا To flow.
 بہتا ہے Flows.
 بیقرار Impatient.
 ہم بیقرار ہوئے We were impatient or impatiently.
 انعام-بدلہ Recompense, reward.
 بدلہ دینے والا One who rewards.
 وہ کام آنگی Will be useful.
 تو shalt be rewarded.
 تم بدلہ دیا جائگا You will be rewarded.
 ہم بدلہ دئے جائینگے We shall be rewarded.
 ہم بدلہ دیتے ہیں We are rewarding.
 وہ بدلہ دیتا ہے He compensates.
 وہ بدلہ دیا جاتا ہے He is being compensated.
 وہ بدلہ دئے جاتے ہیں They are being rewarded.
 میں نے بدلہ دیا I rewarded.
 ہم نے بدلہ دیا We rewarded.
 محصول Tribute.
 تکرہ-حصہ A part, portion.
 بدن A body.
 بدنوں Bodies.

جَعَلَ He made or appointed.

اوسنے بنایا

جَعَلَ Two made. دو نے بنایا

جَعَلَ He made. اوسنے کیا

جَعَلَ You fixed. تم نے تھہرایا

جَعَلَ I fixed or ordained.

میں نے مقرر کیا یا تھہرایا

جَعَلْنَا We imposed or ordained.

ہم نے مقرر کیا

جُعِلَ Was imposed. وہ تھہرایا

جَاعِل One who places or constitutes.

بنانے والا

جَاعِلُونَ Those who constitute. بنانے والے

جَعَلُ I will impose or fix. میں تھہراؤنگا

جَعَلْ Impose thou. تو تھہرا

جَعَلُوا You impose or fix. تم تھہراؤ

تو تھہراتا ہے Thou art imposing.

تو تھہراتے ہو You are attributing.

جَعَلُ We will make. ہم بنائینگے

يَجْعَلُ He appoints. وہ تھہراتا یا کرتا ہے

يَجْعَلُونَ They are making. وہ بناتے ہیں

جَعَلُوا They constituted or appointed.

انہوں نے تھہرایا

جَفَاءً Froth, foam. پھین-کوزا-کرکت

جَفَان (جفن) A large dish, trencher.

بڑی تھالی-لگن

جَلَابِيب (جلب) A large outer covering worn by women. بڑی پردی یا برقع

جَلَاءً Banishment, to be ruined. اُجڑنا

جَلَى He revealed. اوسنے روشن کیا

جَلَى Has appeared. ظاہر ہوا

يَجْلِي Reveals or manifests. روشن کرتا ہے

جَلال (جل) Majesty. بزرگی

جَلْدَة (جلد) A whip or a flogging. کوزا

جَلْدٌ Skins, hides. پھین

جَلْدُوا You should whip or scourge. تم تڑپے مارو

جَمٌ Much. بہت

جَمال (جمال) Grace, elegance. فصاحت-خوبی

جَمَالَة A row of camels. اونٹوں کی قطار

جَمَلَة Complete, perfect.

پورے طور سے-یکبارگی

جَمِيل Decorous, gracious. عمدہ خوب

جَمَع (جمع) جمع } اکٹھا ہونا

جَمَع He gathered. اوسنے اکٹھا کیا

جَمَعَان Two hosts. دو جماعتیں

جَمِيع All. تمام-سب

جَمِعُوا They gathered. انہوں نے اکٹھا کیا

جَمَعْنَا We collected. ہم نے اکٹھا کیا

جَمِعَ Was collected. اکٹھا کیا گیا

جَامِع One who collects. اکٹھا کرنے والا

جَامِعَاتُ f. They gathered together.

وہ جمع ہوئیں

جَامِعُوا Gathered together. جمع ہوئے

جَامِعُوا They collected. انہوں نے جمع کیا

جَامِعُونَ All. تمام-سب

تَم جَمِعَ کرگے You will gather. تجتمعوا

مَلْنِي كِي جگهه A place of meeting. مجمع

مَجْمُوع That which is gathered.

جمع کیا ہوا

مَجْمُوعَاتُ Which are gathered.

جمع کئے ہوئے

مُجْتَمِعُونَ Those who gather together.

جمع ہونے والے

نَجْمَعُ We will gather. ہم جمع کریں گے

يَجْمَعُ He gathers. وہ جمع کرتا ہے

جِن (جن) Genii, demons

جِنَّة Demons, spirits

أَجْنَة Fetus. بچہ

مَجْنُون Mad. پاگل

جَنَّت A paradise. باغ بہشت

جَنَّان Two paradises. دو باغ بہشت

جَنَات Gardens. باغات

جَنَّ Has covered. تھانپ لیا

جَان A thin serpent. یاریک سانپ

جَنَاءَ Fresh dates ready gathered

نیا چنے ہوئے میوے

جَنَاح (جنح) A hand, wing, to incline.

از-رجوع کرنا

جَنَاح A crime. جرم-گناہ

جَنَاحِي Two hands or wings. دو بازو

أَجْنَعَة Wings, arm, armpit. بازو بغل

جَنَحُوا Inclined. وہ رجوع ہوئے-وہ جھکے

جَنْب (جنب) A side. پہلو

جَنُوب Sides. پہلووں اطراف

يَجْتَنِب Shall be removed far from the same. اُس سے بچایا جائے گا

جَانِب Aside. ایکطرف

يَتَجَنَّب Turns away. دور ہوتا ہے

يَجْتَنِبُون They are avoiding. بچتے ہیں

إِجْتَنِبُوا You should avoid. بچنا

تَجْتَنِبُوا If ye turn aside

أَجْتَنِب Avoid thou

جہاد (جہاد) To fight with infidels.

کالوں سے لڑنا

جہاد Striving with might and main.

خدا کی راہ میں کوشش کرنی

جہاد He has strived for the religion of God. اوسنے خدا کی راہ میں کوشش کی

جہاد Both have strived.

دونوں نے کوشش کی

جہاد They strived. اونہوں نے کوشش کی

جہاد Strive thou. تو کوشش کر

جہاد You fight. تم جہاد کرو

جہاد You are fighting. تم جہاد کرتے ہو

جہاد Those who fight for the cause of Islam. وہ جہاد کرنے والے

جہاد He fights. وہ جہاد کرتا ہے

جہاد They are fighting. وہ جہاد کرتے ہیں

جہنم (جہنم) Hell. دوزخ

جہار (جہار) In public, openly. آشکارا-ظاہرہ

جہار To speak aloud. زور سے پکارنا

جہار Has published or spoken. پکارا

جہار Openly, manifestly. کھلا

جہاز (جہز) Things necessary for a journey, Paraphernalia. سفر کا اسباب

جہز Has got ready for journey. سفر کے لئے تیار کیا

جہالہ (جہل) Ignorance. نادانی

جہول Very ignorant, foolish. بڑا نادان

جہول You acting like an ignorant. تم جہات کرتے ہو

جہال Ignorant. نادان

جہالون Ignorant persons. جاہل لوگ

جہالہ Ignorance, نادانی

جہالون They are acting like an ignorant. وہ نادانی کرتے ہیں

جیب (جاب) Vest or the bosom of a shirt. گریبان

جیوب Vests. گریبان

جید (جاد) A neck. گردن

ح

حاج (حاج) A want, something necessary, wish. ضرورت

حاجز (حجز) One who hinders or restrains. روکنے والا

حاجز To withhold or to keep back. باز رکھنا

حاجز He opposed or hindered. اوسنے روکا یا مخالفت کی

حاجز

حاجز boundary.

حائون Those who are opposing. جو دشمنی کرتے ہیں

حاش (حاش) Far be it. ایسا ہرگز نہو

حاصب (حصب) A violent wind bringing with it a shower of stones. پتھر برسائے والی ہوا

حصب Fuel. ایندھن

حافرة (حفر) Former condition. اگلی حالت

حافین (حف) Those who go round about. گرد پھرنے والے

حافنا We surrounded.

ہم نے چھپایا یا گھیرا

حاق (حاق) Hem in, compass about. گھیر لیا

حاق Surrounds in, compasses about. گھیرتا ہے

حام (حمی) Name of a superstitious camel. ایک اونت کا نام

حامیة Hot. گرم

حامیة Marsh, hot spring. دلدل-گرم چشمہ

حامیة Affectation cant. غیرت

حامیة Shall be made hot. گرم کیا جائگا

حاب (حب) Friendship. دوستی

حاب He made friends. اوسنے دوستی کی

حاب A great friend. بڑا دوست

حاب I do love. میں دوست رکھتا ہوں

أصدقاء Friends. دوست

أحببت Thou loved. تو نے دوست رکھا

أحببت I loved. میں نے دوست رکھا

أحببت You are loving. تم دوست رکھنے ہو

أحببت Friendship. دوستی

أحببت } He loves. وہ دوست رکھتا ہے

أحببت } Are loving. دوست رکھنے ہیں

أحببت They loved. انہوں نے دوست رکھا

أحببت } Grain. دانہ

أحببت Ropes, veins. رسیاں-دریدیں

أحببت A rope, cord. رسی

أحببت Was fruitless.

وہ بے پھل یا ناچیز ہوا

أحببت f. Was perished. وہ ضائع ہوئی

أحببت Made fruitless.

اوسنے بے پھل یا ناچیز کیا

أحببت Was vain. وہ ناچیز یا بے مصرف ہوئے

أحببت Shall make fruitless. وہ ناچیز کریگا

أحببت Ways or tracks. راستے

أحببت A decree. ضروری-لازمی

أحببت Until, even, in order.

اگرچہ-جب تک

أحببت To run quickly. جلدی دوڑنا

أحببت The pilgrimage to Mecca.

مکہ جا کر حج کرنا

أحببت He performed the pilgrimage.

اوسنے حج کیا

أحببت Intended. ارادہ کیا

أحببت A fear. ڈر

أحببت Those who perform the pilgrimage. حج کرنے والے

أحببت An argument. دلیل

أحببت He disputed. اوسنے جھگڑا کیا

أحببت Those who are disputing. وہ جو جھگڑا کرتے ہیں

أحببت Are disputing. جھگڑتے ہیں

أحببت A rock. پتھر-چٹان

أحببت Stone. پتھر

أحببت The country inhabited by the tribe of Shamúd. قوم ثمود کی بستی کا نام

أحببت Forbidden. منع کیا گیا

أحببت Private chambers. کوٹھریاں

أحببت Bosoms, guardians. گودیں-معاظف

أحببت A veil, curtain. پردہ

أحببت f. Shut out or was covered. پردہ کی گئی

أحببت A garden. باغ

أحببت An elevation of the ground. بلند مقام

أحببت A story, event, history. بات

أحببت Thou speak. تو بات کر

أحببت Shall declare. بیان کریگی

أحببت You are relating. تم روایت کرتے ہو

أحببت I will declare, narrate, produce. میں بناؤنگا

أحببت That which is newly produced or revealed. بنایا گیا

أحببت Produces, creates, invents. پیدا کرتا ہے یا ایجاد اختراع کرتا ہے

أحببت To beware. ڈرنا

أحببت Place of safety. مکان محفوظ

أحببت Take heed, fear. تو ڈر

أحببت That which is

أحببت He fears. وہ ڈرتا ہے

أحببت They fear. وہ ڈرتے ہیں

أحببت Fearing. ڈرتے ہو

أحببت He fears. وہ ڈرتا ہے

أحببت Heat. گرمی

أحببت A hot wind blowing by night. ہوا جو رات کو چلے

أحببت A free-man. آزاد مرد

أحببت Fine silk. باریک ریشمی کپڑا

أحببت They attempted, inclined. انہوں نے قصد کیا

أحببت To give freedom. آزاد کرنا

أحببت Was freed. آزاد کیا

أحببت Forbidden. ناجائز-ناروا

أحببت Prohibits. وہ حرام کرتا ہے

أحببت Considering unlawful. ناجائز سمجھتے ہیں

أحببت Forbidden things. منع کی ہوئی چیزیں

أحببت The sacred Ordinances of God. اللہ کی چیزیں

أحببت He forbade. اوسنے منع کیا

أحببت They forbade. انہوں نے منع کیا

أحببت We forbade. ہم نے منع کیا

أحببت Is forbidden. وہ منع کیا گیا

أحببت f. Is forbidden. منع کی گئی

أحببت That which is forbidden. ناجائز

أحببت Unlawful one. حرام کی ہوئی

أحببت Thou makest unlawful. تُو تُو

أحببت You make unlawful. تُو تُو

دہ جو لڑائی کرتے ہیں
 اوسنے لڑائی کی
 بلا خانہ
 Private chamber.
 بلا خانے
 Private chambers.
 تنگی-مانعت
 (خرج) Narrow, a restriction.
 ارادہ
 A purpose.
 چوکیدار
 Guards.
 تو نے آرزو کی
 Thou desired.
 تو نے آرزو کی
 You desired.
 تو للچاتا ہے
 Thou art coveting.
 لالچی
 Covetous.
 (حرض) Excessive affliction.
 جد درجہ کا غم
 تیز کرنا
 To excite.
 کدارہ
 A verge, margin.
 پیشہ کرنے والا
 One who follows a profession.
 (حرف) Perverting.
 حرف پھیرنے ہیں
 تم جلاؤ
 You burn.
 جلانے والا
 Those who burn.
 دہ جلیو
 f. Burned.
 ہم جلاینگے
 We shall burn.
 جماعت-گروہ
 A company.
 دو گروہ یا جماعتیں
 Two parties.
 گروہیں
 Parties or companies.
 غم
 Grief, sorrow.
 غمگین

تو غم کھاتا ہے
 Thou art grieving.
 تم غم کھاؤ گے
 You will be grieved.
 تم غم کھاؤ
 You grieve.
 وہ غم کھاتا ہے
 He grieves.
 وہ غم کرتے ہیں
 They do grieve.
 غم کھائینگے
 f. Will be grieved.
 گنا
 To calculate.
 میرا حساب تھا
 That was my account or calculation.
 گنا
 Counted.
 خیال-اندازہ
 Imagination, opinion.
 اوسنے خیال کیا
 He thought.
 اونہوں نے سمجھا
 They thought.
 وہ سمجھی
 f. She thought.
 تو نے خیال کیا
 Thou imagined.
 تهنے خیال کیا
 You imagine.
 حساب لینے والا
 One who takes an account.
 ہم نے حساب لیا
 We took an account.
 گننے والے
 Calculators.
 تو سمجھتا ہے
 Thou dost understand.
 تم جانتے ہو
 You know.
 وہ سمجھتا ہے
 He understands.
 وہ سمجھتے ہیں
 They understand.
 وہ امید رکھتا ہے
 He expects.
 وہ امید رکھتے ہیں
 They do expect.
 وہ حساب کرتا ہے
 He calls to account for.
 وہ حساب کرتے ہیں
 They are calculating.
 وہ حساب کرتے ہیں
 Will be asked an account.
 وہ حساب کیا جائگا

Good, beautiful things.
 نہایت عمدہ چیزیں
 (حسن) Good, beautiful things.
 نیکی کرنا
 To do good.
 نیکی
 Goodness.
 دونوں نیکیاں
 Both excellencies.
 نیک
 Excellent, good.
 نیکی
 f. Goodness.
 وہ نیک ہوئی
 f. Was good.
 بہت اچھا
 Very good.
 اوسنے نیکی کی
 He did good.
 انہوں نے نیکی کی
 They did good.
 تم نے نیکی کی
 You did good.
 تو نیکی کر
 Thou do good.
 نیکی کرو
 Do good.
 تم نیکی کرو گے
 You will do good.
 نیکی کرنے والا
 One who does good.
 نیکی کرنے والے
 Those who do good.
 نیکی کرنے والیاں
 f. Good-doers.
 نیکی کرتے ہیں
 Are doing good.
 افسوس
 Ah!
 (حس) حسرت
 زک کھایا ہوا
 Stripped, de-titute.
 افسوس کرنا
 To sigh.
 تم افسوس کرو گے
 You will sigh.
 ماندہ-عاجز
 Fatigued, worn out.
 نہ ہنیں تھکتے
 Do not get worn out with fatigue.
 نرم آواز
 A soft sound.
 معلوم کیا
 Perceived.

They perceived. ادرسون نے دریافت کیا
 Thou art perceiving. تو معلوم کرتا ہے
 You were driving or destroying. تم بھگاتے تھے یا ہلاک کرتے تھے
 Miseries in succession. (حسم) حسوم
 پتے در پتے مصیبت
 To envy, jealousy. کرہنا (حسد) حسد
 Jealous, envious. حسد کرنے والا
 Are jealous. جاتے ہیں
 To gather, raise. جمع کرنا (حشر) حشر
 He gathered, raised. اوسنے جمع کیا
 Thou hast raised. تونے اٹھایا
 We gathered. ہم نے جمع کیا
 Was gathered. وہ جمع کیا گیا
 f. Was gathered. وہ جمع کی گئی
 You gather. تم جمع کرو
 Gathered together. جمع کیا گیا
 We will gather. ہم جمع کریں گے
 Is being gathered. وہ جمع کیا جاتا ہے
 Are being gathered. جمع کئے جاتے ہیں
 Gatherers. جمع کرنے والے
 To reap. کاٹنا (حصد) حصاد
 Which was reaped or cropped. کاٹا ہوا
 You reaped. تم نے کاٹا
 Was manifested, (حص) حصاص
 Was manifested or obtained. حاصل کیا گیا
 f. Was restricted. تنگ ہوئی (حصر) حصرت
 A prison. قیدخانہ

almost
 You prevent or keep back. احرصوا
 Prevented روکے گئے
 You were prevented تم روکے گئے
 Fortresses. (حصن) حصون
 He imprisoned. اخصدت
 اوسنے بند رکھا
 f. Preserves. وہ بچاتی ہے
 You are keeping back. اخصون
 تم روک رکھتے ہو
 To be in a prison, chastity, fortified. اخصن
 پاک دامن رہنا قید میں رکھنا
 Fenced in, fortified. اخصن
 قید کی گئیں
 You keep fortified. اخصون
 تم روک رکھتے ہو
 f. That which was restricted. اخصن
 وہ جو قابو کی گئی
 Married men. اخصون
 مرد نکاح کرنے والے
 Married women. اخصون
 بیابھی ہوئی عورتیں
 Stood in presence. (حضر) حضر
 وہ روبرو ہوا
 They stood in presence. اخصوا
 وہ روبرو ہوئے
 Does not get excited. لا اخص
 برانگیختہ نہیں ہوتا
 Has presented. اخصرت
 اوسنے روبرو کیا
 f. Was brought in presence. اخصرت
 وہ روبرو کی گئی
 Are getting nigh. اخصون
 نزدیک ہوتی ہیں
 In presence. حضر
 موجود
 Present. اخصرة
 We will bring forward. اخصون
 ہم سامنے لائیں گے
 Was presented. حاضر کیا گیا
 Were presented. حاضر کئے گئے

Breaking
 (خطب) خطاب
 Remission. (خط) خطا
 A part, fortune. (خط) خط
 Grand-children. (حفد) حفدة
 A pit. (حفر) حفرة
 Original state. ابتدائی حالت
 Gracious, kind. (حفي) حفي
 Asks. مانگتا ہے
 To keep, guard. (حفظ) حفظ
 نگہبان
 Guards. نگہبان
 He guarded. اوسنے نگہبانی کی
 We guarded. ہم نے سنبھالا
 You take care. اِحفظوا
 Were entrusted and reminded. اخصظوا
 امانت دلائے گئے
 We are watching or guarding. اخصظ
 امانت کرتے ہیں
 Keeper, custodian. اخصظ
 نگہبان
 f. Those who guard. اخصظون
 نگہبان والے
 f. Those who guard. اخصظات
 نگہبان والی
 Well guarded. اخصظ
 نگہبان کیا گیا
 Keeping in
 They
 اخصظون

Strengthen. اُستوار کرتا ہے

Both are ordering. دونوں حکم کرتے ہیں

They are passing an order. وہ حکم کرتے ہیں

Are judging or deciding. فیصلہ کرتے ہیں

They desire to go to judgment. فیصلہ چاہتے ہیں

To alight or to descend. اُترنا

Wives. منکوحہ عورتیں

Lawful. واجب-درا

Those who consider lawful. حلال جاننے والے

Place of sacrifice. قربانی کرنیکی جگہ

You become lawful. تم حلال ہو جے

He made lawful. اوسنے حلال کیا

They untied, alighted. اونہوں نے کھولا یا اُتارا

We allowed. ہم نے حلال کیا

That is made lawful. وہ حلال کیا گیا

f. Was made lawful. وہ حلال کی گئی

I make it lawful. حلال کرتا ہوں

Descend or untie thou. تو کھول یا اُتر

f. Becomes lawful. نو حلال ہوتی ہے

Makes lawful. حلال کرتا ہے

You are considering lawful. تم حلال سمجھتے ہو

That becomes lawful. وہ حلال ہوتا ہے

Are considering lawful. حلال سمجھتے ہیں

Will be covered or clothed. تھانکے یا پہنائے جائینگے

Are becoming lawful. حلال ہوتے ہیں

To desolution of a vow. پم اوتارنا

Adorned. پہنائے گئے

The throat. گلا

Do not shave. مت منداؤ

You have sworn. نے قسم کھائی

Are swearing. قسم کھاتے ہیں

A great swearer. بڑا قسم کھانے والا

Understanding. عقل

Dream, intelligence. خواب یا عقل

An ornament, trinkets. زیور

Ornaments, jewellery. زیورات

Mud. گارا کیچڑ

An ass. گدھا

Asses. گدھے

f. A woman who carries much. بہت اوتھانے والی

f. A beast of burden. لادنے والی

Has carried. اُسنے اُتھایا

We carried. ہمنے اوتھایا

f. Was carried. وہ اوتھائی گئی

Was burdened. وہ لادا گیا

Were burdened. لادے گئے

We were loaded. ہم لادے گئے

I will carry. میں اوتھاؤنگا

Thou carry into (ark). و سوار کر

He carried. اوسنے اوتھایا

was proper or right. سچ ہوا

proved, verified. ثابت ہوئی

was proved, verified. ثابت کی گئی

just. سزاوار ٹھیک

More just or worthy. زیادہ لایق

Being proved or justified. ثابت ہوتا ہے

Makes right and true. درست اور سچا کرتا ہے

Was proved true. سچ ثابت ہوا

f. That which is to be proved or justified. ثابت ہونی والی

A long space of time. بڑی مدت

A long space of time. بڑی مدتیں

Strength. زور-قوت

He ordered. اوسنے حکم کیا

Judge. منصف

Thou ordered. تو نے حکم کیا

You ordered. تم نے حکم کیا

A great judge or more wise. بڑا حاکم

Order thou. تو حکم کر

f. Guarded. مضبوط کی گئی

Thou shalt order. تو حکم کریگا

You are ordering. تم حکم کرتے ہو

Confirmed. مضبوط کی گئی

Are confirmed. مضبوط کی گئیں

A wise judge, knowing. منصف-پختہ کار

Judge. حاکم-منصف

thing, wisdom. پکی بات

recommends. فرماتا ہے

حملہ [حمل] They carried. حملوں کے لئے اٹھایا

احمال Load, burden. بوجھ

تو لادے Thou load. تو لادے

A burden, load. بوجھ

Pregnancy, to conceive, with child. نطفہ قرار پانا

وہ اٹھاتی ہے She carries. وہ اٹھاتی ہے

You are being burdened. تم لادے جاتے ہو

جو تو نے رکھا ہے Which thou hast laid. جو تو نے رکھا ہے

We will bear. ہم اٹھانگے

وہ اٹھاتا ہے Raises or carries. وہ اٹھاتا ہے

اٹھاتے ہیں Are carrying. اٹھاتے ہیں

Raising or carrying. اٹھاتی ہیں

Is being raised or carried. وہ اٹھایا جاتا ہے

تو نے اٹھایا Thou hast carried. تو نے اٹھایا

تم لادے گئے You are burdened. تم لادے گئے

تعریف کرنا To praise. (حمد) حمدی

One who is praised, illustrious. تعریف کیا گیا

Renowned, most praiseworthy. بڑا تعریف کیا ہوا

Praised one. تعریف کیا ہوا

One who is praised, or lauded; illustrious. تعریف کیا گیا

Be praised. تعریف کئے جائیں

Those who praise. تعریف کرنے والے

A near relative, a friend, boiling hot water. نزدیک یا دوست-کہوتا پانی

Throats. گلے

Merciful. بڑا رحم والا

Name of a valley. ایک وادی کا نام

To incline to the right religion. (حذ) حذیف

Those who incline to the right religion. سچے دین کی طرف رجوع ہونے والے

Roasted. (حذ) حذیف

Wickedness, to break oath. (حذ) حذیف

سچ کے رسول Apostles. (حار) حواریوں

Pretty or beautiful women. خوبصورت عورتیں

Dark-coloured. (حوی) احوی

Intestine with fat. چیزیں-ملی ہوئی آنتیں

A sin. (حاب) حوب

A fish. (حات) حوت

Fishes. (حذ) حذیان

An argument between two or more persons. دو یا زیادہ شخصوں کے درمیان باہمی گفتگو

Replying to an argument. سوال و جواب کرتا ہے

Turns round about. پھرتا ہے

A year. برس

Two years. دو برس

Got between. حائل ہوا

To turn, a change. پھرنا

Got between. حائل ہونا ہے

A change, turning off or turning away. پھرنا-بدلنا

A plan, contrivance. تدبیر

A bar is placed between. رکھ دیا گیا

Alive. (حی) حی

Came to life. زندہ ہوا

Alive. زندہ

Living being. حیوان

You are unmade. (حی) حییم

Salute. سلام کرو

He restored to life. اٹھایا

Thou restored to life. اٹھایا

We restored to life. اٹھایا

I am restoring to life. اٹھاتا ہوں

Are keeping alive. اٹھاتے دیتے ہیں

You shall live. تم جیو گے

Thou restorest. تو زندہ کرتا ہے

To live. جینا

We will raise from the dead. اٹھائیں گے

Alive, John the Baptist. زندہ-یوحنا بپتستہ

One who re-tores to life. اٹھانے والا

We shall keep you alive. ہم تمکو زندہ رہنے دینگے

He restores to life. وہ اٹھاتا ہے

Salutes. سلام کرتا ہے

Shame. شرم

Bashful, ashamed. ہے

Distracted. (حار) حیران

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

(حذ) حذیف

Extinct, dead. (خمد) خامدوں

بچھے ہوئے-مردہ

Waste, fallen down, tumble-down. (خوی) خاویقہ
گری ہوئی-ویران

That which is hidden. (خبا) خبا

جو چیز چھپی ہوئی ہو

Corruption. (خبل) خبال

ملاوت-خراپی

News, report. (خبر) خبر

Knowledge, understanding. (خبر) خبر

Knowing, one who knows. (خبر) خبر

دانا-جاننے والا

News, tidings, report. (خبر) خبر

A perfidious man. (ختر) ختار

وہ شخص جو بڑا جھوٹا ہو

A seal. (ختم) ختم

We will seal. (ختم) ختم

Will seal. (ختم) ختم

He sealed. (ختم) ختم

Was sealed. (ختم) ختم

A sealing, the wax. (ختم) ختم

لاکھ-مہر لگانے کی شے

Last prophet. (ختم) ختم

A cheek. (خد) خد

A pit or trench. (خد) خد

A Traitor. (خدل) خدول

مخس کش-دغا دینے والا

Destitute. (خدول) خدول

Disgraces or disappoints. (خدول) خدول

ذلیل کرتا ہے

Fallen down. (خر) خر

Fallen down. (خر) خر

Overthrown, made to fall. (خر) خر

Are falling down. (خر) خر

A laying waste. (خر) خراب

Are wasting. (خر) خراب

Those who guess, those who tell lies. (خرص) خراصون

اندازہ-اندازہ یا اٹکل دوڑانے والے

Are guessing. (خرص) خراصون

You are guessing. (خرص) خراصون

Tribute, maintenance. (خرج) خراج

حاصل یا یافت

Tribute. (خرج) خراج

Has come forth. (خرج) خراج

To come forth, to go out. (خرج) خراج

نکلا-برآمد ہونا

If go out. (خرج) خراج

Thou comest forth. (خرج) خراج

You have come forth. (خرج) خراج

We came forth. (خرج) خراج

They came forth. (خرج) خراج

Which proceedeth from. (خرج) خراج

وہ نکلتی ہے

Thou didst bring forth. (خرج) خراج

You are driving out. (خرج) خراج

You will or shall be brought forth or driven out. (خرج) خراج

To drive out, to bring forth. (خرج) خراج

He driven out. (خرج) خراج

They brought forth. (خرج) خراج

She brought forth. (خرج) خراج

We brought forth. (خرج) خراج

Were driven out. (خرج) خراج

Was driven out. (خرج) خراج

تم نکالے گئے۔ You were driven out. اُخْرِجْتُمْ

ہم نکالے گئے۔ We were driven out. اُخْرِجْنَا

میں نکالا جاؤں گا۔ I shall be driven out. اُخْرِجْ

تو نکل۔ Thou come forth. اُخْرِجْ

تم نکلو۔ You come forth. اُخْرِجُوا

تو نکال۔ Thou take out. اُخْرِجْ

تم نکالو۔ You take out, you bring forth. اُخْرِجُوا

نکلنے والا۔ One who comes forth. اُخْرِجْ

نکلنے والے۔ Those who come forth. اُخْرِجِينَ

نکلنے کی جگہ۔ An issue, place of exit. مَخْرَجٌ

نکالا گیا۔ One who was brought forth. مَخْرُجٌ

نکلنے والا۔ One who brings forth. مَخْرُجٌ

نکلنے والے۔ Those who bring forth. مَخْرُجُونَ

نکالے گئے۔ Were driven out. مَخْرُجُونَ

ہم نکالینگے۔ We will come forth. نَخْرُجْ

ہم نکالینگے۔ We shall bring forth. نَخْرُجْ

وہ نکلتا ہے۔ Comes forth. يَخْرُجُ

نکلتے ہیں۔ Are coming forth. يَخْرُجُونَ

نکالے جائینگے۔ Will be driven out. يَخْرُجُونَ

وہ نکلتا ہے۔ Comes forth. يَخْرُجُ

دونوں نکالتے ہیں یا نکالینگے۔ Both are bringing forth or will bring forth. يَخْرُجَانِ

نکالتے ہیں۔ Are bringing forth. يَخْرُجُونَ

ف. Shall drive out or expel out. نکالیں۔ يَخْرُجْنَ

ہم دونوں نکالیں۔ They both shall bring forth. يَسْتَخْرِجَانِ

نکلتا۔ To come forth. مَخْرَجٌ

سوندہ۔ A proboscis or nose. خَرْطُومٌ

راٹی۔ Mustard-seed. خَرْدَلٌ

نکال دیا۔ He made a hole. خَرَقَ

انہوں نے جھوٹ بات دیا۔ They attributed falsely. خَرَقُوا

اوسنے پہاڑا۔ She rent. خَرَقَتْ

تو نے چھید کیا۔ Thou hast made a hole. خَرَقْتَ

تو پہاڑیگا۔ Thou shalt cleave. تَخْرُقُ

خزانے۔ Treasury, store houses. خَزَائِنٌ

خزانے۔ Keepers, treasurers. خَزَائِنٌ

خزانے۔ Those who lay in a store. خَازِنِينَ

جمع کرنے والے۔

شرم۔ Disgrace, shame. خِزْيٌ

شرم۔ رسوائی یا خواری۔

تم رسوا کرتے ہو۔ You are disgracing. تَخْزُونَ

تو رسوا کرتا ہے۔ Thou art disgracing. تَخْزِي

رسوا کرنے والا۔ One who puts to shame. مَخْزِيٌّ

ہم رسوا کریں گے۔ We will disgrace. نَخْزِعُ

وہ رسوا کرتا ہے۔ He disgraces. يَخْزِي

ہلاکت۔ نقصان۔ Loss, perdition. خَسْرٌ

نقصان دہ شے۔ A losing concern. خَسْرٌ

انہوں نے اپنے کو نقصان پہونچایا۔ They who destroyed themselves. خَسِرُوا

جو کثرت سے نقصان آتھانے ہیں۔ Those who lose exceedingly. خَاسِرُونَ

نقصان آتھانے والے۔ One who wanders from the right path. خَاسِرَةٌ

کم کرتا۔ نقصان دینا۔ To deceive, to diminish. تَخْضِرُ

توٹا۔ Losers or those who lose. اَخْسِرُونَ

توٹا پاتا ہے۔ One who perishes. يَخْسِرُ

وژن کم کرنے والے۔ Those who give short measure. مَخْسِرُونَ

خُصِفْنَا We hurried ourselves.

يَخْسِفُ Takes away the light.

نَخْسِفُ We will or shall bury beneath earth. نَخْسِفُ

خَشَبٌ (خشب) Timber, rough wood.

خَشْوَعٌ Humility. خَشْوَعٌ

خَشَعَةٌ Humbled, barren, desolate.

خَاشِعٌ One who humbles himself.

خَاشِعُونَ They who humble themselves.

خَاشِعَةٌ Those who fear. خَاشِعَةٌ

خَاشِعَةٌ f. One who fears.

خَاشِعَاتٌ f. Those who fear.

خُشِعٌ Humbly submits.

خَشِيَ To fear. خَشِيَ

وہ ڈرا۔ He feared. خَشِيَ

میں ڈرا۔ I feared. خَشِيتُ

ہم ڈریں۔ We feared. خَشِينَا

مت ڈرو۔ Do not fear. لَا تَخْشَوْا

تو ڈرتا ہے۔ Thou fearest. تَخْشِي

ہم ڈرتے ہیں۔ We fear. نَخْشِي

وہ ڈرتا ہے۔ He fears. يَخْشِي

ہم ڈرتے ہیں۔ Are fearing. يَخْشُونَ

خَصَامٌ Dispute. خَصَامٌ

خَصْمٌ An adversary.

خَصِيمٌ A dispute.

اُچک لیا جاتا ہی Is being snatched away.
 اُچک لیا جاتا ہی
 اُچک لیجائے Snatch away, carry off.
 اُچک لیجائے
 اُچک لیجاتی ہی Snatches away or despoils.
 اُچک لیجاتی ہی
 قدموں (خطا) Steps. خُصاوات
 ہلکے Light. خُفاف
 ہلکی ہوئی Was light. خُفت
 ارسنے ہلکا کیا He made light. حُفَف
 ہلکا Light. حُفِيف
 ہلکا کرتا ہی He makes light. حُفِف
 ہلکا کیا جائگا Will be made light or easier. حُفِف
 ہلکا کرنا To make light. نَخْفِيف
 ہلکا سمجھتا ہی Thinks light. يَسْتَخْفِ
 چپکے Hidden. خُفِيفَة
 تم چھپاتے ہو You are hiding. تَخْفُونَ
 وہ چھپے گی Will hide or conceal. تَخْفِي
 وہ چھپنے والا One who tries to hide himself. مَسْتَخْفٍ
 تو چھپاتا ہی Thou art concealed. تَخْفِي
 چھپنے والی f. One who hides. خَائِفَة
 بہت چھپا ہوا More hidden. اِخْفِي
 تم نے چھپایا You hid or concealed. اَخْفَيْتُمْ
 چھپایا گیا Was hidden. اُخْفِي
 میں چھپاتا ہوں I hide. اِخْفِي
 چھپتے ہیں Are hiding (themselves). يَسْتَخْفُونَ
 ہم چھپائیں گے We will hide. نَخْفِي
 چھپاتا ہی Hides. يَخْفِي
 چھپتے ہیں Are hiding (themselves.) يَخْفُونَ
 چھپاتے ہیں Are concealing. يَخْفُونَ

چھپاتی ہیں f. Are hiding. يَخْفُونَ
 آزاد-اکیلا-صاف Alone, free, clear. حَلَا
 گزرے گزرے Gone before or that which has passed away. خَلَا
 وہ صاف ہوگا Shall be cleared. يَخْلُو
 گزری ہوئیں f. Have preceded. خَلَّتْ
 خالی ہو جاوے-خالی ہوا Has emptied or become empty. تَخَلَّتْ
 چھوڑو Dismiss. خَلَا
 خفیہ-اکیلے میں Secret, in secret. خَلْصًا
 پاک-نرا-صاف کرنا To make pure. اِخْلَاصًا
 پاک-صاف کیا ہوا Pure, purified. مَخْلُوصًا
 وہ صاف کرنے والے Those who purify. مَخْلُوفِينَ
 چنے گئے یا صاف کرنے والے Were chosen, selected. مَخْلُوفِينَ
 ہم نے صاف کیا We purified. اَخْلَصْنَا
 انہوں نے صاف کیا They purified. اَخْلَصُوا
 میں صاف کرونگا I will purify. اَسْتَخْلِصُ
 ساتھ ملا ہوا To be mixed with. اِخْتِلَافًا
 تم ملاتے ہو You are mixing (yourselves in business). تَخْتَلِفُونَ
 ملادیا ہی Has mixed. خَلَطُوا
 ضد In apposition. اِخْتِلَافًا
 پیچھے رہنے والے Those who stay behind. خَائِفِينَ
 تکرار Dispute diversity. اِخْتِلَافًا
 تکرار کی He disputed. اِخْتَلَفَ
 کی They disputed. اِخْتَلَفُوا
 You disput. اِخْتَلِفْ
 T' اِخْتِلَافًا
 پھید

اُچک لیا جاتا ہی Is being snatched away.
 اُچک لیا جاتا ہی
 اُچک لیجائے Snatch away, carry off.
 اُچک لیجائے
 اُچک لیجاتی ہی Snatches away or despoils.
 اُچک لیجاتی ہی
 قدموں (خطا) Steps. خُصاوات
 ہلکے Light. خُفِيف
 ہلکی ہوئی Was light. خُفت
 ارسنے ہلکا کیا He made light. حُفَف
 ہلکا Light. حُفِيف
 ہلکا کرتا ہی He makes light. حُفِف
 ہلکا کیا جائگا Will be made light or easier. حُفِف
 ہلکا کرنا To make light. نَخْفِيف
 ہلکا سمجھتا ہی Thinks light. يَسْتَخْفِ
 چپکے Hidden. خُفِيفَة
 تم چھپاتے ہو You are hiding. تَخْفُونَ
 وہ چھپے گی Will hide or conceal. تَخْفِي
 وہ چھپنے والا One who tries to hide himself. مَسْتَخْفٍ
 تو چھپاتا ہی Thou art concealed. تَخْفِي
 چھپنے والی f. One who hides. خَائِفَة
 بہت چھپا ہوا More hidden. اِخْفِي
 تم نے چھپایا You hid or concealed. اَخْفَيْتُمْ
 چھپایا گیا Was hidden. اُخْفِي
 میں چھپاتا ہوں I hide. اِخْفِي
 چھپتے ہیں Are hiding (themselves). يَسْتَخْفُونَ
 ہم چھپائیں گے We will hide. نَخْفِي
 چھپاتا ہی Hides. يَخْفِي
 چھپتے ہیں Are hiding (themselves.) يَخْفُونَ
 چھپاتے ہیں Are concealing. يَخْفُونَ

اُخْرَا They opposed. اُنہوں نے مخالفت کی

اُخَالَف I will oppose. میں مخالفت کرونگا

تُخَلِّف Thou art opposing. تو مخالفت کرتا ہے

تُخَلِّفُونَ You are breaking the promise. تم وعدہ خلافی کرتے ہو

مُخَلِّف One who breaks his promise. وعدہ خلافی کرنے والا

مُخَالَفِ Opposer. مخالفت کرنے والا

مُخَالَفِينَ Those who oppose. مخالفت کرنے والے

نُخَلِّف We will contradict or oppose. ہم مخالفت کریں گے

يُخَالِفُونَ We are contradicting. مخالفت کرتے ہیں

يُخَالِفُ He vicissitudes. وہ خلاف کرتا ہے

يُخَالِفُونَ Are contradicting. مخالفت کرتے ہیں

خَلِيفَةٌ A successor, Lieutenant. قائم مقام۔ نائب

خَلَائِف Successors. جائے نشین

خَلْف Has left behind. اوسنے پیچھے چھوڑا

خُلَف Unworthy sons. نالائق فرزند

خَلْفُوا They left behind. اُنہوں نے پیچھے چھوڑا

أُخَلِّفُوا Were left behind. پیچھے چھوڑے گئے

خَلْفَةٌ Successor or a succeeding generation. نسل یا ایک کے بعد ایک آنے والا

خَلْفَاء Vicar. سردار

خَالِفِينَ Those who remain behind. پیچھے رہنے والے

أُخَلِّف Do thou act as deputy. تو خلیفہ ہو

أَخْلَقْنَا We made deputy. ہم نے خلیفہ بنایا

وَأُخَلِّفُوا Were left behind. پیچھے چھوڑے گئے

يُخَلِّف Comes after. وہ پیچھے آتا ہے

يُخَلِّفُونَ They may become successors. وہ خلیفے یا جانشین ہوتے ہیں

خَالِفِينَ Those who remain behind. پیچھے رہنے والے

يُسْتَخْلَف Makes successor or deputy. خلیفہ کرتا ہے

مُسْتَخْلَفِينَ Those who are to be successors. جانشین نائب ہونے والے

يُتَخَلَّفُونَ Are staying behind. پیچھے رہتے ہیں

خَلَقَ (خلق) To produce or create. نکالنا یا پیدا کرنا

خَلَقَ He created. اوسنے پیدا کیا

خُلِقَ He was created. وہ پیدا کیا گیا

خَلَقْتَ Thou created. تو نے پیدا کیا

خَلَقْتُ I created. میں نے پیدا کیا

وَأُخَلِّفُوا Were created. وہ پیدا کی گئی

خَلَقْنَا We created. ہم نے پیدا کیا

خَلَقُوا They created. اُنہوں نے پیدا کیا

وَأُخَلِّفُوا Were created. پیدا کئے گئے

أَخْلُق I create or produce. میں پیدا کرتا یا نکالتا ہوں

تُخَلِّق Thou art making or creating. تو بناتا یا پیدا کرتا ہے

تُمْ بِنَاتے ہو You are making. تم بناتے ہو

يَخْلُق He creates. وہ پیدا کرتا ہے

يَخْلُقُونَ Are creating. پیدا کرتے ہیں

مُخَلَّقَةٌ Well and perfectly formed. درست صورت بنایا گیا

يُخَلَّق Will be created or produced. وہ پیدا کیا جائگا

يُخَلَّقُونَ Are being created. پیدا کئے جاتے ہیں

نُخَلِّق We will create. ہم پیدا کریں گے

خَالِق One who creates. پیدا کرنے والا

خَالِقُونَ Those who create. پیدا کرنے والے

خُلُق Manner or habit a natural disposition. عادت

إِخْلَاق A lying device. جھوٹ بات

عَدَمًا Eternity. ہمیشگی

عَالَمًا Eternal. دائمی

عَالَمًا You will live for ever. ہمیشگی

يَبْقَى Remains for ever. رہتا ہے

خَلِيل (خل) A friend, an epithet of Abraham. دوست۔ ابراہیم کا خطاب

خَلَال Camels entering their second year of a friendship. دوستانہ

خَلَالِ Dismiss or let them go. چھوڑ دو

خَلَاہ Inner compartment, between. درمیان۔ اندر

أَخْلَاء A friend. دوست

أَخَاة A friendship. دوستی

خَمْر Wine. شراب

خُمُر Coverings. پوشش یا چادریں

خَمْس (خمس) Five. پانچ

خُمْس One fifth. پانچواں حصہ

خَمْسِينَ Fifty. پچاس

خَامِسَةٌ The fifth. پانچواں

خَمِيمٌ Bitter. کڑوا

خَنزِير (خنزیر) Swine, a pig. سور

خَنزِيرَات Pigs. بہت سے سور

خَنَس (خنس) The devil. شیطان

خَنَس Stare. تارے

خَوَار (خارا) A lowing. گائے کی آواز

خَوْف (خاف) Fear. ڈر

خَيْفَةٌ Fear. ڈر

ترسے والے **تَرَسَ** You are fearing. تم ترس رہے ہو۔
 ترسے والے **تَرَسَ** Do not fear. مت ڈرو۔
 ترسنا **تَرَسَ** To fear. ڈرنا۔
 ترسنا **تَرَسَ** Terror; in order to terrify. ڈرانا۔
 ترسے ہیں **تَرَسَ** We are fearing. ہم ترس رہے ہیں۔
 ترساتا ہے **تَرَسَ** He frightens. وہ ڈراتا ہے۔
 ترساتے ہیں **تَرَسَ** Are frightening. ڈراتے ہیں۔
 ترسے گا **تَرَسَ** He will fear. وہ ڈرے گا۔
 ترس رہے ہیں **تَرَسَ** Both are fearing. دونوں ترس رہے ہیں۔
 ترس رہے ہیں **تَرَسَ** Are fearing. ترس رہے ہیں۔

اوسنے بخشا **بَخَشَا** He bestowed. (بخال) **بَخَالَ** خول۔
 ہم نے بخشا **بَخَشَا** We bestowed. خو لدا۔
 چوری **بَخَرَا** Theft. (خان) **بَخَانَا** خیانہ۔
 بڑا خیانتی یا دغا باز **بَخَانَا** A treacherous. خوان۔
 f. One who cheat unfaithful. **بَخَانَا** خانہ۔
 دغا کرنے والی **بَخَانَا** Those who cheat or deceive. خیانت کرنے والے۔
 تم خیانت کرتے ہو **بَخَانَا** You are cheating. تم خیانہ کرتے ہو۔
 خیانت کرتے ہیں **بَخَانَا** Are cheating. خیانت کرتے ہیں۔
 Goods, agreeable, better, best. **بَخِيرَا** (خار) **بَخِيرَا** خیر۔
 مال-نیکی **بَخِيرَا** Good things, good works. نیکیاں۔
 اختیار **بَخِيرَا** Choice, selection. اختیار۔
 پسند کرتا ہے **بَخِيرَا** Choosing. پسند کرتا ہے۔

تم پسند کرتے ہو **بَخِيرَا** You are choosing. تم بخیروں۔
 پسند کرتے ہیں **بَخِيرَا** Are choosing. بخیروں۔
 اُس نے پسند کیا **بَخِيرَا** He has chosen. اِخْتَارَ۔
 میں نے پسند کیا ہے **بَخِيرَا** I have chosen. اِخْتَرْتُ۔
 ہم نے پسند کیا ہے **بَخِيرَا** We have chosen. اِخْتَرْنَا۔
 سوت-دورا **بَخِيرَا** A thread. (خاط) **بَخِيرَا** خیط۔
 صبح صادق **بَخِيرَا** Dawn of day. خیط الابيض۔
 صبح کاذب **بَخِيرَا** Just before day break. خیط الاسود۔
 سوئی **بَخِيرَا** A needle. خياط۔
 سوار-گھوڑے **بَخِيرَا** Horses cavalry. (خال) **بَخِيرَا** خیل۔
 دکھائی دیتا ہے **بَخِيرَا** Appears, seems, looks like. بخیل۔
 خیال کیا جاتا ہے **بَخِيرَا** Proud, arrogant. اِخْتَالًا۔
 شیخی باز-مغرور **بَخِيرَا** Proud, arrogant. اِخْتَالًا۔

د

A mansion, abode, house. **دَارَا** (دار) **دَارَا** مکان گھر۔
 گردش زمانہ **دَارَا** A change of fortune. دائرہ۔
 گردش کرنا **دَارَا** To go round. دائرہ۔
 وہ پھرتی ہے **دَارَا** Goes round. دور۔
 مکانات-گھر **دَارَا** Houses. دیار۔
 رہنے والا **دَارَا** A dweller. دیار۔
 داؤد **دَارَا** David. (داؤد) **دَارَا** داؤد۔
 چوپایہ **دَارَا** Beast. (دب) **دَارَا** دب۔
 چوپائے **دَارَا** Beasts. دواب۔
 That which endures perpetually. **دَارَا** (دام) **دَارَا** ہمیشہ رہنے والا۔
 Those which endure, perpetual. **دَارَا** ہمیشہ رہنے والے۔
 ہمیشہ رہے **دَارَا** remain for ever. ہمیشہ رہے۔

f. Remained perpetually. **دَامَتَا** ہمیشہ رہی۔
 میں رہا **دَامَتَا** I remained. میں رہا۔
 تو رہا **دَامَتَا** Thou remained. تو رہا۔
 تم رہے **دَامَتَا** You remained. تم رہے۔
 A state, custom, manner. **دَابَا** (داب) **دَابَا** حالت عادت-دستور۔
 The back, hinder part. **دَابِرَا** (دبر) **دَابِرَا** پچھلا حصہ۔
 f. Those who govern. **دَابِرَاتَا** حکومت-یا تدبیر کرنے والیاں۔
 پیٹھیں **دَابِرَاتَا** Backs. ادبار۔
 To turn the back or retreat. **دَابِرَاتَا** پشت پھرتی۔
 اوسنے پشت پھرتی **دَابِرَاتَا** He turned his back. اوسنے پشت پھرتی۔
 One who turns his back. **دَابِرَاتَا** پشت پھرنے والا۔

Those who turn their backs. **دَابِرَاتَا** پشت پھرنے والے۔
 گمان کرتے ہیں **دَابِرَاتَا** Are meditating. گمان کرتے ہیں۔
 غور کرتا ہے **دَابِرَاتَا** Considers. غور کرتا ہے۔
 غور کرتے ہیں **دَابِرَاتَا** Are considering. غور کرتے ہیں۔
 f. Which is worthy of **دَابِرَاتَا** (دحض) **دَابِرَاتَا** دسوا ہونے والی۔
 دسوا کئے گئے **دَابِرَاتَا** Were condemned. دسوا کئے گئے۔
 دسوا کریں **دَابِرَاتَا** Cause to nullify. دسوا کریں۔
 خوار ہونے والے **دَابِرَاتَا** (دخر) **دَابِرَاتَا** Those which are vile. خوار ہونے والے۔
 اُچھانے والا (پانی) **دَابِرَاتَا** (دق) **دَابِرَاتَا** That which pours fourth. اُچھانے والا (پانی)۔
 خارج یا ہانکے گئے **دَابِرَاتَا** (دحر) **دَابِرَاتَا** Were driven away, rejected. خارج یا ہانکے گئے۔
 خارج دور کیا ہوا **دَابِرَاتَا** Driven away. خارج دور کیا ہوا۔
 پھیلا یا بچھا ہوا **دَابِرَاتَا** (دحا) **دَابِرَاتَا** Expanded, spreaded. پھیلا یا بچھا ہوا۔

دھواں (Smoke) دھواں دھواں

ریا-مکر False, hypocrisy. (دخَل) دَخَلَ

وہ اندر آیا He entered in. دَخَلَ

وہ اندر آئے They entered in. دَخَلُوا

وہ اندر آئی Entered in. دَخَلَتْ

تو اندر آیا Thou hast entered. دَخَلْتَ

تم داخل ہوئے You entered in. دَخَلْتُمْ

تم نے جمع کیا You cohibited. دَخَلْتُمْ

وہ جماع کی گئی Was cohibited. دَخَلَتْ

اندر آنے والے Those who enter in. دَخَلُونَ

میں داخل کرونگا I will introduce. دَخُلْ

تم دونوں آؤ You both come in. دَخُلَا

تم داخل ہو You enter. دَخُلُوا

تم داخل ہو You enter. دَخُلِيْ

ہم نے داخل کیا We introduced. دَخَلْنَا

تو داخل ہو Thou enter. دَخُلْ

داخل کئے گئے Were entered. دَخَلُوا

تو داخل کر Introduce thou. دَخُلْ

تم داخل ہوتے ہو You are entering. دَخَلُوا

تو داخل کرتا ہے Thou art entering. دَخُلْ

داخل ہونیکی جگہ Place of entering or an entrance. مَدْخَلٌ

داخل ہونیکی جگہ

داخل کرنا To enter. مَدْخَلٌ

ہم داخل ہونگے We will enter. نَدْخُلْ

ہم داخل کریںگے We will enter or introduce.

وہ داخل ہوتا ہے He enters into. يَدْخُلْ

داخل ہوتے ہیں Are entering. يَدْخُلُونَ

وہ داخل کیا جائگا Will be entered. يَدْخُلْ

وہ داخل کرتا ہے He enters or introduces. يَدْخُلْ

وہ داخل کرتا ہے

دوسرا (Dusra) دوسرا دوسرا

پڑھا پڑھا پڑھا They read. دَرَسُوا

تو نے پڑھا Thou hast read. دَرَسْتَ

تم پڑھتے ہو You are reading. تَدْرُسُونَ

وہ پڑھتے ہیں They are reading. يَدْرُسُونَ

حنوک Enoch. اِدْرِيسُ

چونیاں Small silver coins. دَرَاهِمٌ

مرتبے Ranks. (درج) دَرَجَاتٌ

مرتبہ Honour. دَرَجَةٌ

دراز کا نیچلا درجہ Lowest bottom of the hell. دَرَكٌ

دراز کا نیچلا درجہ

وہ پکڑے گئے یا مل گئے Were overtaken or found. مَدْرَكُونَ

وہ پکڑے گئے یا مل گئے

وہ پکڑے گئے یا مل گئے He comprehended. اِدْرَاكَ

اوسنے دریافت کیا

پہونچا Reached or attained into. اِدْرَكَ

نچلے گئے میں گریے Fell into the lowest bottom. اِدْرَاوْا

اُسکو پایا Has reached or found. تَدَارَكَ

وہ پاسکتی ہے Can overtake. فِ تَدْرِكُ

وہ پاتا ہے He overtakes. يَدْرِكُ

چمکنے والا چمکنا Shining, one which shines. (در) دَرِي

چمکنے والا چمکنا

بہت برسنے والا مینہ Raining abundantly. مَدْرَارًا

بہت برسنے والا مینہ

کبلیں-مبلیں Nails, pegs (دسر) دَسْرٌ

کبلیں-مبلیں

اوسنے خاک میں ملایا He corrupted. (دسی) دَسِيَ

اوسنے خاک میں ملایا

دھپاتا ہے Hides. (دس) يَدْخُلْ

دھپاتا ہے

دھپاتا ہے Drive away or to push. (دع) دَع

دھپاتا ہے

دھپاتا ہے Thrusts. يَدْخُلْ

دھپاتا ہے

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دعا دعا دعا

دُورِ He approached and drew near.
 وہ قریب ہوا
 دَم Blood. خون
 دَمِ The blood of one another.
 ایک دوسرے کا خون
 دَمَدَم Destroyed, obliterated.
 مٹایا۔ گرایا
 دَمَر He destructed. اوسنے ہلاک کیا
 دَمَرنا We destroyed. ہم نے برباد کیا
 دَمِیر To destroy. برباد کرنا
 دَمِیر f. Will destroy. وہ اکھاڑیگی
 دَمَع (دمع) A tear. آنسو
 دَمِ He drawn nearer. وہ نزدیک ہوا
 دَمِ Near, at hand. نہایت نزدیک
 دَمِ That which is near at hand or low. نزدیک ہونے والا
 دَمِیة f. That which is near at hand. نزدیک ہونے والی
 دَمِین f. Are causing to be nearer. نزدیک کرتی ہیں
 دَمِ Mean, inferior. کمینہ۔ حقیر
 دَمِ Very mean, more vile. بہت حقیر۔ کم قدر
 دَمِ One man. ایک مرد
 دَمِ کیا چیز۔ ٹپ
 دَمِ This is he or it. یہ وہ ہے
 دَمِ These men. بہت سے مرد
 دَمِ These two men. یہ دو مرد
 دَمِ women. تم سب عورتیں
 دَمِ A wolf, بہیریا (ذاب)

دَوَات (دال) A change of time or fortune
 مال داری
 دَوَات In a circuit, in a circle.
 ہاتھوں ہاتھ لینا (یعنی اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کرنا)
 دَوَاتِ We are interchanging.
 ہم بدلتے ہیں
 دَهَق (دهق) Pouring out of a full cup, a bumper. پورے ہوئے پیالے میں سے چھلکنا
 دَهَان (دهن) Red leather. نری کے مانند سرخ چمڑا
 دَهْن Butter, anointing oil. مکھن۔ تیل
 دُهْن Thou shouldst be easy. اگر تو نرمی کریگا
 دُهْنون Those who gloss over or hold in low estimation or despise. دین میں سستی کرنے والے
 دُهْنون They will be easy too. وہ بھی نرمی کریں گے
 دَهْر (دهر) A space of time. زمانہ
 دَین (دان) A debt. قرضہ
 دَین Religion, custom, institution. مذہب
 دَینون Those who were paid wages. مزدوری دئے گئے
 دَینار (دینار) A gold coin, a ducat. اشرفی۔ مہر

ذ

ذَاک This. یہہ
 ذَاکِ Those two. یہہ دو
 ذَلِک These all. یہہ سب
 ذَاکِ (ذانک) } These two. یہہ دو
 ذَاکِ }
 ذَاک This one man. یہہ ایک مرد
 ذَاکِ This one woman. یہہ ایک عورت
 ذَاب (ذاب) A wolf, بہیریا

ذَائِقَة f. One who tastes or experiences. تجربہ کرنے والی۔ چکھنے والی
 ذَاق He tasted. اوسنے چکھا
 ذَاقُوا We tasted. ہم نے چکھا
 ذَائِقُون Those who taste. چکھنے والے
 ذَاقَا Both tasted. دونوں نے چکھا
 ذَاقَت He tasted. اوسنے چکھا
 ذَاقُوا They tasted. انہوں نے چکھا

چکھنا ہے Tastes. تذوق
 چکھتے ہیں Are tasting. تذوقون
 We are causing to taste. تذیق
 ہم چکھانے جاتے ہیں
 تو چکھا Thon taste. تذوق
 تم چکھتے ہو You are tasting. تذوقوا
 وہ چکھتا ہے He tastes. تذیق
 مکھی (ذب) ذباب
 That which is sacrificed, a victim. ذبح
 قربانی کے لئے حلال کرنے کا جانور
 حلال کیا گیا Was sacrificed. ذبح
 اونہونے حلال کیا They slaughtered. ذبحوا
 تم حلال کرو گے You will sacrifice. ذبحوا
 وہ حلال کرتا ہے He sacrifices. ذبح
 حلال کرتے ہیں Are sacrificing. ذبحون
 A cubit, a stretching forth of the hand. ذراع
 دو گز Two cubits. ذراعی
 Troubled in mind. ذرع
 کم ہمت-دل میں خوف زدہ
 One single ant. (ذرة) ذرة
 اولاد Progeny. ذریعہ
 اولادیں Offspring, children, race. ذریعات
 He multiplied or scattered. ذرا
 اوسنے بکھیرا
 We multiplied or produced. ذرا
 ہم نے بکھیرا
 یاد کرنا To remember. ذکر
 لڑکے Male children. ذکرة
 He remembered or commemorate. ذکر
 اوسنے یاد کیا
 یاد کیا گیا One who was remembered. ذکر
 نو A male. ذکر

Two males. ذکران
 Thou admonish. ذکر
 وہ نصیحت دیگا He will admonish. ذکر
 آدمی Men. ذکران
 Thou hast remembered. ذکر
 تو نے یاد کیا
 You were instructed or admonished. ذکرتم
 تم سمجھائے گئے
 اونہوں نے یاد کیا They remembered. ذکروا
 سمجھائے گئے Were admonished. ذکروا
 نصیحت دینی To admonish. ذکرى
 دو نو Two males. ذکرین
 نو Males. ذکور
 Those who remember or commemorate. ذاکرات
 یاد کرنے والیاں
 Those who remember. ذاکرین
 یاد کرنے والے
 Admonition, warning. ذکرة
 You will consider. ذکرون
 تم نصیحت پکڑو گے
 You will remember. ذکرون
 تم یاد کرو گے
 یاد دلانا To remind. تذکر
 تو یاد کریگا Thou shalt remember. تذکر
 تو یاد دلاؤگا Thou shalt remind. تذکر
 یاد کرنے والا One who remembers. مذکر
 اوسنے یاد کیا He remembered. (ذکر) ذکر
 نصیحت پکڑتا ہے Accepts warning. یذکر
 That which was remembered. مذکور
 ذکر کیا گیا
 We are remembering. نذکر
 ہم یاد کرتے ہیں
 Hears or accepts admonition. یذکر
 نصیحت پکڑتا ہے
 One who is being remembered. یذکر
 یاد کیا جاتا ہے
 Will be warned. یذرون

ذکرتم
 (ذل) ذل
 Abasement, humiliation
 ذل
 Submission. ذل
 Was submitted. ذلت
 We subjected. ذلنا
 Humble, submissive. ذول
 Thou art bringing low. ذل
 Causing an abasement. ذلیل
 We are being humbled. ذل
 ذل و خوار ہوتے ہیں
 A treaty, good faith. ذم
 مذمت کیا ہوا Abused. مذموم
 Dispised, rejected. (ذام) مذموم
 کیا گیا برا کلا ہوا
 A crime, fault, sin. ذنب
 Crimes, faults, sins. ذنوب
 A portion, lot. ذنوب
 صاحب-مالک Lord. (ذر) ذر
 دو صاحب Two Lords. ذوا
 ذوی
 صاحبان Lords. ذوات
 دو مالک Two masters. ذوانا
 ذوانی
 One of Gabriel's titles. ذومرہ
 ذومرہ
 To go. (ذہب) ذہاب
 He

تَم جاتے ہو You are going.

ہم جائیں گے We will go.

وہ جاتا ہے He is going.

لیجاتا ہے Takes away.

دونوں جاتے ہیں Both are going.

تَم لے جاتے ہو You are taking away.

وہ لے جائیں گے They may take away.

جاتے ہیں Are going.

Alexander the great, one with two horns. ذی القرنین

پہاڑ Mountains. (سا) زواسی

پہاڑیاں Hills. راسیات

He fixed firmly. ارسا

اوسنے گاڑ دیا یا خوب قائم کیا

That which is fixed. جو خوب قائم ہے

Who are well grounded in learning. پکے عالم (رسخ) راسخون

Turned upon. متوجہ ہوا (راغ) راغ

Took possession. (دان) دان

اوسنے قبضہ کیا یا رنگ پکڑا

I desired. میں نے چاہا (داد) راودت

f. Desired. اوسنے چاہا (راودت)

Respited. بھلایا (راودن)

They wished. اونہوں نے چاہا (راودوا)

Thou desirest. تو چاہتی ہے (تراود)

We will desire. ہم خواہیں کریں گے (نراود)

You are desiring. تم چاہتے ہو (نراودن)

f. You are desiring. تم چاہتی ہو (نراودن)

We are desiring. ہم چاہتے ہیں (نراودن)

He intends. وہ ارادہ کرتا ہے (یرود)

Both are desiring. دونوں چاہتے ہیں (یرودان)

They are intending. وہ ارادہ کرتے ہیں (یرودن)

He desired. اوسنے چاہا (داد) اراد

Those two desired. اُن دونوں نے چاہا (ارادا)

They desired. انہوں نے چاہا (ارادوا)

We desired. ہم نے چاہا (ارادنا)

f. They desired. اُن نے چاہا (ارادن)

You desired. تم نے چاہا (ارادتم)

I desired. میں نے چاہا (ارادت)

I am desiring. میں چاہتا ہوں (ارید)

Thou desirest. تو چاہتا ہے (ترید)

Respite thou for a while. (رود)

To see, look. دیکھنا (دای) رای

That which pleases. خوش نما (رعی)

He saw, looked. اوسنے دیکھا (رای)

They looked. اونہوں نے دیکھا (راوا)

f. She looked. اوسنے دیکھا (رات)

They looked. اونہوں نے دیکھا (راین)

Thou hast looked. تو نے دیکھا (رایت)

You looked. تم نے دیکھا (رایدم)

You looked. تم نے دیکھا (رایدموا)

I am pointing out. میں دکھاتا ہوں (اری)

To show, hypocrisy. دکھلاوا-مکاری (ریاء)

Show. دکھا (ار)

Make to appear. دکھاؤ (اروا)

A fourth. چوتھا (رابع)

Four. چار (اربع)

Four and four. چار اور چار (اربع و اربع)

Four and four men. چار چار مرد (اربع و اربع رجال)

One fourth. ایک چوتھائی (اربعون)

Forty. چالیس (اربعون)

Most compassionate. بڑا مہربان (راف)

Mercy, kindness. عنایت مہربانی (راف)

Look at us. ہم پر رعایت کر (رعی)

Those who respect or look at. رعایت کرنے والے (راعون)

Shepherds. چرواہے (راعون)

A right observance. درست نگہبانی کرنا (راعون)

They protected. اونہوں نے حفاظت کی یا بنایا (راعون)

Pasture. چراگاہ (راعون)

Remain firm. قائم رہو (رابط)

Confirm, tie, a body of horse consisting of five or more. قائم کرنا-گرہ-گھوڑوں کا گروہ (رابط)

We confirmed or tied. ہم نے باندھا (رابط)

Strengthens. مضبوط کرتا یا باندھتا ہے (رابط)

A head, capital sum. سر-سرمایہ (رابط)

Leaders. سربراہان (رابط)

میں دیکھتا ہوں۔ I am looking or seeing. اری
 خوب دیکھنا۔ To dream. روبا
 تو نے نہیں دیکھا۔ Thou hast not looked. ام تر
 اوسنے نہیں دیکھا۔ He did not see. لم تر
 ہم نے دکھایا۔ We showed. اربنا
 میں دیکھتا ہوں۔ I am seeing. اری
 تم دکھاؤ۔ You show. اروا
 تو دیکھتا ہے۔ Thou art seeing. نری
 تم دیکھتے ہو۔ You are seeing. قرون
 تو دیکھیگی۔ f. Thou shalt see. ترن
 تو دکھائے۔ Thou show. تری
 Looked at to one another. ترآء
 ایک دوسرے کو دیکھا
 f. Has appeared in presence. قرآءت
 سامنے نظر آئی
 ہم دیکھتے ہیں۔ We are seeing. نری
 ہم دکھاتے ہیں۔ We cause to appear. نری
 وہ دیکھتا ہے۔ He sees. یری
 دیکھتے ہیں۔ Are seeing. یرون
 وہ دکھایا جائیگا۔ That will be shown. یرآئی
 وہ دکھاتا ہے۔ Shows. یوی
 تم کو دکھاتا ہے۔ Causes you to see. یویکمرآ
 یرآءن Are showing among themselves.
 آپس میں دکھاتے ہیں
 زیادہ ہونے والا۔ (ربا) ربائی
 f. That which increases. رابدة
 زیادہ ہونے والی
 اُبھڑا ہوا۔ That which mounts up. ربت
 بیاج۔ Interest. ربوا
 وہ بڑھاتا ہے۔ He increases. یوی
 فائدہ مند ہوتا ہے۔ Being useful. یویبوا

A lord, provider. رب (رب)
 اوسنے پالا۔ He has provided. رب
 Those who are learned in Divine law or pious. ربانین
 اللہ والے لوگ۔ People of God, people. ربون
 We are providing or supporting. رب
 کثرت سے۔ Myriads. رب
 اکثر۔ Often, frequently. ربما
 Step daughters, daughters-in-law. ربائب
 بہویں۔ سوئیلی بیٹیاں
 f. Became profitable. ربحت
 فائدہ مند ہوئی
 Solid, anything close, impervious. رتق (رتق)
 تھوس چیز جسکا منہ بند ہو
 آہستہ پڑے۔ Read slowly. رتل (رتل)
 ہم نے ٹھیک ٹھیک پڑھا۔ We read distinctly. رتلنا
 Reading the Qoran in a slow and distinct way. رتیل
 قرآن کا آہستہ اور صفائی سے پڑھنا
 کانپنا۔ To move, shake, shiver. رج (رج)
 f. Was made to shiver. رجت
 کنپائی گئی
 پیادے۔ Foot-soldiers. رجال (رجل)
 مرد۔ A man. رجل
 دو مرد۔ Two men. رجلاں
 رجلمین
 پانو۔ A foot. رجل
 پیادہ۔ A foot-soldier. رجل
 عذاب۔ A plague, punishment. رجز (رجز)
 ناپاکی۔ Impurity. رجز

He turned back. رجع
 Have returned. رجعوا
 You returned. رجعتم
 We returned. رجعنا
 I was sent back or returned. رجعت
 I will or shall turn back. ارجع
 Thou turn back. ارجع
 You turn back. ارجعوا
 Thou return. ارجع
 You are turning. ارجعون
 Is being turned back. ارجع
 You will be turned back. ارجعون
 He will be returned back. ارجع
 Will be turned back. ارجعون
 Both will be inclined. ارجعا
 To return. ارجع
 An earthquake, mighty. رجفة
 بہونچال
 Those who make a commotion. مرجفون
 اُٹھانے والے
 f. One who trembles. راجفة
 To stone. رجم (رجم)
 Things with which stone. رجوم
 We stoned. رجمنا

پھیرنا (رف) To avert.

پھیر دیا Gave back or returned,

پھیرے گئے Were turned back.

وہ پھیری گئی f. Was turned back.

میں پھیرا گیا I was turned back.

ہم نے پھیرا We caused to turn.

پھیرنا To return or avert.

رد کیا گیا Was rejected, averted.

پھیرے گئے Were restored or averted.

تم پھیرو You restore.

وہ اُلت گیا He turned or drove back.

دونوں اُلتے پورے Both drove back

اُلتے پورے Drove back.

تم پلٹتے ہو You are reverting.

f. Will be restored or averted.

وہ پھیری جائیگی

تم پھیری جاؤ گے You will be averted.

وہ اُلتے جائیگے Will be turned back.

پھرتے ہیں Are averting.

پھیرا جاتا ہے Is being averted.

پھیرے جاتے ہیں Are being averted.

پھرتے ہیں Are averting.

پلٹتا ہے Averts.

(رف) Followed behind.

وہ پیٹھ پیچھے ہوا

f. That which follows

پیچھے آنے والی مضبوط و موٹی دیوار (رفم) A strong wall

مددگار (ودا) A helper.

روزنی (رزق) Necessaries of life.

روزق He supplied or provided.

ہم نے روزی دی We provided.

ہم روزی دئے گئے We were provided with.

روزی دئے گئے Were provided with.

روزق The great provider.

تو روزی دے Provide thou.

تم روزی دو You provide.

تو روزی دیتا ہے Thou art providing.

تو روزی دئے جاؤ گے You will be provided.

ہم روزی دیتے ہیں We are providing.

وہ روزی دیتا ہے He is providing.

روزی دئے جائیگے Will be provided.

(رس) A well near Median.

مدیان کے پاس ایک کنواں

(رسل) Prophetic order.

پیغمبری سلسلہ

رسولہی ہدے Prophetic orders.

اوسنے بھیجا He sent.

اوسوں نے بھیجا They sent.

اوسنے بھیجا Sent.

تو نے بھیجا Thou sent.

ہم نے بھیجا We sent.

وہ بھیجا گیا He Was sent.

بھیجے گئے Those who were sent.

تم بھیجے گئے You were sent.

ہم بھیجے گئے We are sent.

تو بھیج Thou send.

تم بھیجو You send.

مرسِل One who sends. بھیجنے والا
 مرسِلوا Those who send. بھیجنے والے
 مرسِل One who is sent. بھیجا گیا
 مرسِلون Were sent. بھیجے گئے
 مرسِلة f. Sender. بھیجنے والی
 مرسِلات f. Were sent. بھیجی گئیں
 نرسِل We are sending. ہم بھیجتے ہیں
 نرسِل He sends. وہ بھیجتا ہے
 رسِل Prophets. رسول لوگ
 رسول A prophet. پیغمبر
 رشدا A right way. راستہ یا نیک راہ (رشد)
 رشدا A going in the right way. راہ پانا
 رشدا Right way. سیدھی راہ
 رشید A person of discernment. شخص نیکوکار
 رشدون Well directed ones. دوست اور نیک راہ چاہنے والے
 رشدون Are obtaining the right way. راہ پاتے ہیں
 مرشد One who directs aright, a guide. سیدھی راہ دکھانے والا
 رصد A lying in wait. تاک گھات
 ارضاد A means of preparation or fitting out. تاک یا گھات لگانا
 مرصدا A place of ambush. گذرگاہ
 مرصد A place of observation. جائے انتظار
 رضاعة The act of sucking milk. دودہ پلانا
 ارضعن They suckled. اونہوں نے دودہ پلایا
 ارضعت She suckled. اوسنے دودہ پلایا
 ارضعی To suckle. دودہ پلانا
 رضعة f. One who suckles. دودہ پلانے والی
 براضع Breasts. چھاتیاں

ارضعن Are suckling.
 رضوان (رضی) Grace acceptance, that which is pleasing. خوش کن
 رضی Was pleased. خوش ہوا
 رضوا Were pleased. خوش ہوئے
 رضی Agreeable. دل پسند
 رضیت I accepted. میں نے پسند کیا
 رضیتم You accepted. تم نے پسند کیا
 ارضی He agreed. وہ راضی ہوا
 ترضی Thou shalt agree. تو راضی ہوگا
 ترضون You will choose. تم پسند کرو گے
 قراض Mutual consent. باہم راضی ہونا
 قراضوا Agreed. راضی ہوئے
 تراضیتم You were pleased. تم خوش ہوئے
 راض One who is pleased. خوش ہونے والا
 راضية f. One who is pleased خوش ہونے والی
 مرضی } f. Well-pleased. پسندیدہ
 مرضية }
 مرضات Pleasures. خوشیاں
 ارضی He is well-pleased. وہ خوش ہوتا ہے
 ارضون Are well-pleased. خوش ہوتے ہیں
 ارضین May be well-pleased. خوش ہوتے ہیں
 ارضون Are being made pleased. راضی کئے جاتے ہیں
 رطب (رطب) That which is green. سبز یا تازہ
 رطب Fresh ripe dates. پکی ہوئی کھجوریں
 رعب (رعب) Fear, terror. خوف۔ دہشت
 رعد (رعد) Thunder. بجلی کی گرج
 رغب (رغب) He desired. اوسنے خواہش کی

رغبت (رغبت) He desired.
 رغبون Are desiring.
 رغدا Abundantly. دل سے
 رفات (رفات) Any thing broken into pieces or dust. ٹوٹا ٹوٹا
 رفث (رفث) Carnal intercourse. بھونڈی
 رفا (رفا) A gift. انعام
 رفود Was given, granted, rewarded. دیا گیا
 رفوف (رفوف) A pillow, mattresses. بچانڈیاں
 رفع (رفع) He raised up. اوسنے اٹھایا
 رفعت f. Was exalted. اونچی کی گئی
 رفعنا We lifted up. ہم نے اونچا کیا
 رفع One who raises up. اونچا کرنے والا
 ترفعوا You are lifting up. تم اٹھاتے ہو
 ترفع Thou shalt be exalted. بلند کیا جائگا
 ارفعنا Was raised on high. اٹھایا گیا
 ارفعا f. Exalted. اٹھائی
 ارفع We are lifting up. ہم اٹھاتے ہیں
 ارفع Exalts. بلند کرتا ہے
 رفیق (رفیق) A companion, friend. یار
 رفق To recline on the elbow. ہاتھ تکیہ کرنا
 رفاق Elbows. کھنیاں
 مرفق A couch. تکیہ گاہ
 رق (رق) Scroll of parchment. رقعہ
 رقبة (رقبة) A neck. گردن
 رقاب Necks. گردن

نگھان *Observer.* *نگھان*
 تم وہ دیکھتا ہے *They are watching.*
 تم وہ دیکھتا ہے *They are watching.*
 انہوں نے دیکھا ہے *Those who watch.*
 انتظار کرنے والے *Watches, observes.* وہ دیکھتا ہے
 وہ دیکھتا ہے *Are watching or expecting.*
 امید رکھتے ہیں *Are expecting.* امید رکھتے ہیں
 سونا۔ خواب *(وقد) Sleeping.*
 خواب کا *A bed.*
 سونے والا *One who sleeps.*
 لکھا گیا *Was written.* (رقم)
 The name of a leaden plate on which the names of the seven sleepers were inscribed.
 وہ تختی جس پر اصحابِ رقیم کے نام گندے تھے
 چڑھنا *An ascent.* (رقی)
 تو چڑھینگا *Thou shalt ascend.*
 ہنسلین *Clavicle or breast bones.*
 چڑھتے ہیں *Are ascending.*
 اونٹ *(دکم) Camel.*
 A company mounted on camels. *شتر سوار قافلے*
 جوڑ دیا *Was put together.*
 دونوں سوار ہوئے *Both mounted.*
 ساندنی سوار *One who rides on camel.*
 سوار ہوئے *Mounted on.*
 سواری *A charger.*
 تم سوار ہوتے ہو *You are riding.*
 Lying in heaps. *ملی ہوئی یا جڑی ہوئی*
 تو سوار ہو *Thou ride.*
 تم سوار ہو

سوار ہوتے ہیں *Are riding.* *سوار ہوتے ہیں*
 جمع کرنا *To put together.* (دکم) *دکم*
 انبار میں جمع کیا ہوا *Gathered in a heap.*
 انبار میں جمع کیا ہوا
 Will gather together in a heap. *یرکم*
 تہ بتہ جمع کریگا
 نرم آواز *(رکز) A low sound, a whisper.* *رکز*
 انہوں نے جمع کر کے *Those who bow down in prayer.* (دکج) *دکج*
 جھک کر سجدہ کرنے والے
 سجدہ کرو *Bow down.* *اؤکعوا*
 تو سجدہ کر *f. Thou bow down.* *اؤکعی*
 سجدہ کرتے ہیں *Are bowing down.* *یرکعون*
 سجدہ کرنے والا *One who bows down.* *راکع*
 انہوں نے سجدہ کرنے والے *Those who bow down.* *راکعون*
 مدد۔ زورستون *Support.* (دکن) *دکن*
 تم جھکتے ہو *You are bending or inclining.* *ذکذوا*
 بہالے۔ نیزے *Lances.* (دمع) *دمع*
 داکھ *Ash.* (دمد) *دمد*
 انار *Pome-granates.* (دمان) *دمان*
 A sign, signal. *(رمز) رمز*
 ہاتھ یا سر یا آنکھ سے اشارہ کرنا
 The ninth month of the Mohammedan year. *(رمضان) رمضان*
 محمدیوں کے برس کا نواں مہینا
 پھینکا *To throw.* (دمی) *دمی*
 تو نے پھینکا *Thou hast cast or thrown.*
 پھینکتی ہے *f. Casting.* *ترمی*
 وہ پھینکتا ہے *Throws.* *یرمی*
 تہمت کرتے ہیں *Are accusing.* *یرمون*
 کلا ہوا۔ بوچھڑا *Rotten.* (دم) *دمیم*
 شام *The evening.* (داح) *داح*

رحم۔ مہربانی *Mercy.* *روح*
 جان *Spirit, soul.* *روح*
 ہوا *Wind.* *ریح*
 ہوائیں۔ بو *Winds, smell.* *ریاح*
 That which is still or calm. *(رکد) رواقد*
 خاموش۔ تھارے ہوئے
 روم کے لوگ *The Romans.* (دام) *روم*
 خوف۔ بزدلاہن *Fear, timidity.* (داع) *دوع*
 A rich and well watered meadow. *(داض) روضۃ*
 باغات *Gardens.* *روضات*
 دھن رکھنا *To give in pledge.* (دھن) *دھان*
 دھن رکھی گئی *f. Was given in pledge.* *رھینۃ*
 That which is given in pledge. *دھن رکھا ہوا*
 خوف۔ ڈر *Fear.* (دھب) *رھب*
 ڈرنا *To fear.* *دھبۃ*
 تم ڈراتے ہو *You are frightening.* *ترھبون*
 ڈراتے ہیں *Are frightening.* *یرھبون*
 تارک۔ دنیا سے الگ ہونا *Monasticism.* *رھبانیۃ*
 زاہد *A monk.* *رھبان*
 They wished to terrify. *استہبوا*
 انہوں نے ڈرانا چاہا
 قوم۔ خاندان *Family.* (دھط) *رھط*
 بغاوت۔ سرکشی *Oppressing.* (دھق) *رھق*
 چڑھتی ہے *f. Following closely.* *ترھق*
 ڈھانکتا ہے *Covers.* *یرھق*
 He imposes a difficult task. *یرھق*
 وہ ظلم کرتا ہے
 A ditch or furrow. *(دھا) رھو*
 گڑھا در پانوں کے درمیان کی کشادگی

شُبْهہ-شک (واب) A doubt. رُوبِ

شک f. A doubt. رُوبِ

One who is in doubt. شک و شبہہ یا گمان کرنے والا

Suspicious. مَرْتَاب

He doubts. شک کرتا ہے مَرْتَاب

Are doubting. شک کرتے ہیں مَرْتَابُوا

(واج) رُوبِ

Provision for a journey. زَاد (زاد)

توشہ جو سفر میں درکار ہو

Take provision for the journey. تَزَوَّدُوا

واہ کے لئے خرچ لو

He increased. زَادَ (زاد) اوسنے بڑھایا

They increased. زَادُوا انہوں نے بڑھایا

She increased. زَادَتْ وہ بڑھی

Was increased. زَادَتْ f. زیادہ ہوئی

I will increase. زَادُ I میں زیادہ کرونگا

Thou shalt increase. تَزِدُ تو بڑھاویگا

You will increase. تَزِيدُونَ تم بڑھاؤ گے

Is increasing. تَزِدُ f. بڑھتی ہے

We increased. زَادْنَا ہم نے بڑھایا

Increase or add thou. زِدْ تو بڑھا

Mohammed's freed man and adopted son. زَيْد محمد صاحب کا متبنی بیٹا۔ زید

Was increased. زِيدَ زیادہ کیا گیا

We are increasing. زِيدُونَ ہم بڑھاتے ہیں

We exceed in number. زَادْنَا

ہم زیادہ ہوتے ہیں

Exceeds in number. يَزِدَانُ زیادہ ہوتا ہے

Will or shall increase. يَزِيدُونَ زیادہ ہونگے

Did not increase. لَمْ يَزِدْ زیادہ نہ کیا

Those who hold or holders in low estimation. زَاهِدِينَ (زهد)

حقیر جاننے والے یا بیزار ہونے والے

Angels who keep guard over Hell. زَبَانِيَّة (زبن) دوزخ کے محافظ فرشتے

Froth, scum. زَبَد (زبد) چھاگ-پھین

Tablets for writing. زَبُر (زبر) لکھنے کی تختیاں

Psalms. زَبُور (زبور) زبور داؤد

A glass vessel or a thing made of glass. زَجَاجَة (زج) شیشہ یا شیشہ کی بنی ہوئی چیز

The act of driving or prohibiting. زَجْر (زجر) منع کرنا۔ چھڑکنا۔ ڈانٹنا

A single cry. زَجْرَة (زجره) ایک چیخ

Those who prohibit. زَاَجِرَات f. ڈانٹنے والیاں

Was forbidden. مَزُجْر (مزجر) ڈانٹا گیا

That which was removed. زَحْرَج (زحرج) جو کچھ سرکایا گیا

One who removes. مَزْحَرَج (مزحرج) سرکانے والا

An army marching in a hostile manner. زَحْف (زحف) فوج جو لڑائی کے لئے جارہی ہو

Gold. زَخْرَف (زخرف) سونا

Rich carpets. زَرَابِي (زراب) قالین مسندیں

Farmers, cultivators. زَرَاع (زرع) کھیتی کرنے والے۔ کسان

Farm, land. زَرْع (زرع) کھیتی

Farms, lands, fields. زُرُوع (زروع) کھیتیاں

Those who cultivate, farmers. زَارِعُونَ (زارعون) کھیتی کرنے والے۔ کاشتکار

Blue. زَرْق (زرق) نیلا

To assert, to suppose. زَعَم

He imagined. زَعَمَ (زعم) نے گمان کیا

Thou hast imagined. زَعَمْتَ (زعمت) نے گمان کیا

You thought. زَعَمْتُمْ (زعمتم) نے گمان کیا

One who thinks or imagines. زَعِيم (زعم) نے گمان کیا

Are supposing. يَزْعُمُونَ (يزعمون) گمان کرتے ہیں

The first part of the braying of an ass, sobbing and sighing. زَفِير (زفر) گھوڑے کی آواز کا اول حصہ۔ سسکیاں لینا

Bitter almond of hell. زَقُوم (زقم) کڑوا پھل

Zaokaria. زَكْرِيَّا (زکریا) کے والد حضرت زکریا

To purify. زَكَّى (زکی) پاک کرنا

Pure person, pure men, pious. زَكِي (زکی) پاک آدمی

Has become pure. زَكِيَ (زکی) پاک ہوا

Better. زَكِيَّة (زکیه) پاکیزہ

More righteous. أَزْكِي (آزکی) پاک یا صاف

Purified! تَزَكَّى (تزکی) سنوارا

Thou art purifying. تَزَكِّي (تزکی) ہے

Is purifying. يَزْكِي (يزكي) کرتا ہے

Justifies. يَزْكِي (يزكي) کرتا ہے

Are purifying. يَزْكُونَ (يزكون) کرتے ہیں

Is being purified. يَتَزَكَّى (يتزكي) ہے

The... زَكَاة (زکاہ)

جھوٹ (زور) A falsehood.

جھوڑ دینی ہے She declines. تزاور

زوال (زال) To cease, perish. ہلاک ہونا۔ باقی نہ رہنا

زالت f. Separated. الگ ہوتی

زالتا Both separated one from the other. دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے

تزل Thou shalt fail. تو گرے گا۔ یا ناکامیاب ہوگا

تزلوا Both will fail. دونوں گرینگے یا ناکامیاب ہونگے

ازل Caused to fall. گرایا

تزل Will fall. گرے گا

زلبنا We separated. ہم نے جدا کیا

زلتم (زال) You ceased. تم نہ رہے

تزل Will be separated. دور ہوگی

یزال Is being separated. وہ دور ہوتا ہے

یزالون f. Are making a separation. سرکتی ہیں

زلتتم (زل) You slipped. تم پھسلے یا گرے

زلزل (زل) Caused to slip or fall. گرانے چاہا

زوج (زاج) Husband. خاوند

زوجان Two pairs. دو جوڑے

زوجت f. Was united. ملائی گئی

زوجنا We united. ہم نے ملایا

زوجین Two pairs. دو جوڑے

س

سائقون Those who fast. روزہ رکھنے والے

سبحوا To run backwards and forwards, One who wanders. راغب ہونے والا

ساذغ (ساذغ) Agreeable to drink. پینے میں خوشگوار

سائقون Unites! جوڑ دیتا ہے

سائقون Splendour. خوشنما۔ تازگی

سائقون (زھق) To vanish, disappear, vain, perishable. برباد ہونا۔ جاتا رہنا

سائقون Perished or vanished. برباد ہوا۔ جاتا رہا

سائقون That which vanishes away. جو چیز جاتی رہتی ہے

سائقون Oil. تیل

سائقون The olive. ایک قسم کا درخت

سائقون An olive tree. زیتون کا درخت

سائقون (زاغ) To be inclined downwards. نیچے کی طرف کو جھکتا

سائقون Was deviated. تیرھا ہوا

سائقون f. Deviated. کجی کی

سائقون Were deviated. تیرھے ہوئے

سائقون Will be perverted. تیرھا ہوگا

سائقون (زان) An ornament. زیور۔ سنگار

سائقون Decked out. بنا کر کیا

سائقون f. She adorned. اوس نے بنا کر کیا

سائقون They prepared or adorned. اونھوں نے سنوارا

سائقون We adorned. ہم نے بنا کر کیا

سائقون Was adorned. وہ سنوارا گیا

سائقون I will make appear pleasing. میں زینت ناک کرونگا

سائقون Appeared in pleasing disposition. وہ خوشنما ہوئی

This, near. یہاں۔ قریب

ساقی Name of a she-camel, an idol. ساقی۔ ایک بت

ساقی Who fasts. روزہ رکھنے والی

ساقی Passing easily down the throat. حلق میں آسانی سے اترتا ہے

سائقون (ساق) A driver. ہانکنے والا

سائقون We are driving. ہم چلاتے ہیں

سائقون Are driving. ہانکتے ہیں

ساق Leg, stalk. پتلی

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

سابعات Long coats of mail. (سبع) کفادہ زرہ بکتر

سبغ Caused to abound. پورا کیا

ساحة A courtyard. آنگن

سادات A lord, a person of distinction. حاکم سردار

أسود Black. کالا

أسود pl. Black. کالے

أسودت f. Was black. سیاہ ہوئی

أسود Was blackened. کالا کیا گیا

أسودت f. Was blackened. کالی کی گئی

سید A lord, person of distinction.

مالک سردار

سارِب One who goes forth freely and carelessly.

آوارہ-گلیوں میں مارا مارا پھرنے والا

سراب A mirage, deceitful appearance, as of water in the desert.

دھوکھا-ریت پر پانی کا گمان ہونا

ساعة An hour, time. وقت-گھڑی-زمانہ

سافل One who is low vile, abject.

کمینہ-نیچے رتبہ والا

أسفل Being very low. بہت نیچے ہونے والا

أسفلین Lower and lowest.

بہت نیچے ہونے والا

سفلی Which is low. نیچے

سافلین Those who are low.

کمینے-نیچے رتبہ والا

سامدون Those who pass their time in vanities.

جو اپنا وقت لغویات میں ضائع کرتے ہیں

سامر One who relates fables by night.

شبکو قصہ کہنے والا

سامرے Name of a smith who made the golden calf for the children of Israel.

جس سدا نے بنی اسرائیل کے لئے بچھڑا بنایا تھا

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

ساقین } Two legs, two stalk. دو پتلیاں
ساقین }

سبع Seven (سبع) سبع

سبع Seven men. سبعة

سبع Seventy. ستر

سبع A wild-beast. جانور

سبق To be in advance. سبق

سبق Preceded, advanced. سبق

سبق f. Advanced. سبق

سبق Advanced, preceded. سبقوا

سبق One who advances. سبق

سبق f. Those who go forth. سبقات

سبق Go before or go forth. سبقوا

سبق Those who were surpassed. سبقوا

سبق We are surpassing or ing. سبقون

سبق Surpasses. سبق

سبق f. Surpasses, goes before. سبق

سبق Roads. سبل

سبق A road, a way. سبيل

سبق Six men. ستة

سبق Sixty. ستين

سبق Sixth. سدس

سبق One-sixth. سدس

سبق A wall. ستر

سبق

سبق

سبق

سبق

سبق

We are bowing down.

ہم سجدہ کرتے ہیں

He bows down. وہ سجدہ کرتا ہے

They both are bowing down.

وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں

Are bowing down. سجدہ کرتے ہیں

Tranquilled darkened. (سج) سبکی

تاریکی میں خاموش

A cloud. بادل (سحب) سحاب

Will be dragged. کھینچے جا رہے ہیں

Unlawful, forbidden. حرام (سخت) سخت

Destroys. ہلاک کرتا ہے (یسخت) یسخت

Sorcery. جادوگری (سحر) سحر

The early dawn. بڑی فجر (سحر) سحر

Morning. صبح (اسحار) اسحار

Two enchantments. دو جادو (سحران) سحران

Magicians. جادوگر (سحرۃ) سحرۃ

A great magician. بڑا جادوگر (سحار) سحار

They bewitched. انہوں نے جادو کیا (سحروا) سحروا

One bewitched. جادو کیا ہوا (مسحور) مسحور

Deluded by sorcery. جادو کئے ہوئے (مسکورون) مسکورون

Deluded by sorcery. جادو کئے گئے (مسکورین) مسکورین

A magician, sorcerer. جادوگر (ساحر) ساحر

Two magicians. دو جادوگر (ساحران) ساحران

The act of being far off. (سحق) سحق

Far distant. بہت دور (سحیق) سحیق

Isaac. ابراہیم اور سارہ کا فرزند اسحاق (اسحق) اسحق

He ridiculed. اوسنے ہنسی کی (سخر) سخر

They ridiculed or jeered. انہوں نے ہنسی کی (سخرؤا) سخرؤا

A jeer. مسخرأ

One who jeers. ہنسی کرتا ہے (یسخر) یسخر

Are jeering, ہنسی کرتے ہیں (یسخرون) یسخرون

Act of jeering. مسخرأ

You are jeering. تم ہنسی کرتے ہو (تسخرؤن) تسخرؤن

We are jeering. ہم ہنسی کرتے ہیں (نسخرؤ) نسخرؤ

Are jeering. ہنسی کرتے ہیں (یسسخرؤن) یسسخرؤن

He subdued or subjected. اوسنے فرمانبرداری کیا (سخر) سخر

We made or compelled to serve. ہم نے فرمانبرداری کیا (سخرنا) سخرنا

Who was subjected or compelled. فرمانبرداری کیا ہوا (مسخرؤ) مسخرؤ

Who were subjected or compelled. فرمانبرداری کی ہوئے (مسخرات) مسخرات

Wrath. عذاب (سخط) سخط

He was angry or wrath. وہ غصہ ہوا (سخط) سخط

Are getting angry. ناخوش ہوتے ہیں (یسخطون) یسخطون

A rampart, bar. دیوار (سد) سد

Well-directed. سیدھا (سدید) سدید

Two mountains or high walls. دو بلند دیواریں یا پہاڑ (سدین) سدین

A lote-tree. ایک بیڑ کا درخت (سدر) سدر

Uncared for, neglected. بے سہ-بہلایا ہوا (سدا) سدا

A secret. راز (سر) سر

Secrets. رازہ (سراقرر) سراقرر

You are keeping private or hiding. تم چھپاتے ہو (تسرون) تسرون

That which was hidden. چھپایا گیا (تسخرؤن) تسخرؤن

Are hiding. چھپاتے ہیں (یسرون) یسرون

Joy. خوشی (سراء) سراء

رة خوشي کرتی ہے 'Rejoices. f. تسر
 خوش کیا دوا Rejoiced one. مسرور
 تخت A couch, throne. سرر
 کرتے Garments. (سربل) سراپیل
 چراغ A lamp. (سرج) سراج
 چھوڑنا To dismiss. (سرح) سراج
 رخصت دو Make free or give leave. سرحوا
 رخصت کرنا-طلاق Dismissal, divorce. تسريح
 You lead out to pasture in the morning تم صبح کے وقت چرانے ہو تسرحون
 Rings woven together. (سرد) سرد
 جڑی ہوی کرپاں
 اوسنے چرایا He stole. (سرق) سرق
 چرانے والا One who steals. سارق
 چرانے والے Those who steal. سارقون
 چرانے والی f. One who steals. سارقة
 رة چراتا ہے He steals. يسرق
 چراتی ہیں f. Are stealing. يسرقن
 اوسنے چرانا چاہا He wished to steal. استرق
 ہمیشہ Perpetually. (سرمد) سرمد
 پانی کا چشمہ Rivulet. (سری) سری
 سیر کرا To travel. أسر
 Has caused to travel by night. اسری
 رات کو سیر کرایا
 Travelling by night. يسر
 رات کو سیر کرتے ہیں
 تیز-جادی Swift, prompt. (سرع) سریع
 جلدی کرنے یا دوڑنے والا One who hastens. سراع

Hasten, hurry up. سارعوا
 ہم جلدی کرتے ہیں We are hastening. تسارع
 جلدی کرتے یا دوڑتے ہیں Are hastening or running. يسارعون
 Was spreaded out. (سطح) سطات
 بچھائی گئی
 Were blessed. (سعد) سعوا
 نیک بخت کئے گئے
 Blessed one. سعيد
 دیوانگی Madness. (سعر) سعر
 جلانے والی آگ A burning fire. سعير
 روشن کی گئی f. Was lighted. سعرت
 دوڑنا To run. (سعي) سعي
 دوڑا Ran. سعي
 They endeavoured. سعوا
 ارٹھوں نے کوشش کی
 دوڑتا ہے Runs. يسعي
 دوڑتے ہیں Are running. يسعون
 نادانی-خطا Ignorance, fault. (سفة) سفة
 جسنے خطا کی Foolish, silly. سفة
 حرام کار Fornicator. سفیه
 گنہگار لوگ Transgressors. سفهاء
 جہاز-کشتی Ship, the ark. (سفن) سفينة
 راہ چلنا A journey. (سفر) سفر
 لکھنے والی f. A scribe. سفرة
 کتابیں Books or tomes. اسفار
 فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں سفرة
 سفرون Journeys, travels. اسفار
 روشنی ہوا Brightened. اسفر
 سفید White سفرة

To give to drink. (سقی) سقايه
 He gave to drink. سقى
 Thou hast given to drink. سقيت
 We gave to drink. سقنا
 Were given to drink. سقوا
 Does not moist. f. لا تسقي
 Turn of drinking. سقيا
 Gives to drink. f. تسقى
 Shall be given to drink. f. تسقى
 پلاتا ہوں I cause to drink. اسقى
 He asked for drink. استسقى
 پانی مانگا We gave water to drink. اسقينا
 پانی پلایا We are giving to drink. نسقى
 پلائیں گے We will give to drink. نسقى
 پلاتے ہیں Are giving to drink. يسقون
 پلایا جاتا ہے Is forced to drink. يسقى
 پلایے جاتے ہیں Are forced to drink. يسقون
 دروز کی آگ Hell-fire. (سقر) سقر
 He was made to fall in. (سقط) سقط
 گر پڑے Fallen down. سقطوا
 تو گرا Thou hast fallen. اسقط
 گرتی ہے f. Falling. تسقط
 Thou shalt cast down. تسقط
 Will cast down. f. تساط
 We are casting down. نسقط

زنجیر A chain. (سلسلہ) سلسلہ
 زنجیریں Chains.
 خلاصہ An extract, a brief. (مختصر) خلاصہ
 Withdrawn privately. (مخفی) چھپے سے کہہ سکتی ہیں
 Name of a fountain in Paradise. (سلسیل) سلسیل پھول
 فردوس میں ایک چشمہ کا نام ہے
 Was given power. (سلط) سلط
 قوت دی۔ معین کیا
 Power, authority, demonstration. (سلطان) سلطان
 دلیل۔ غلبہ
 Gives victory. (یسلط) یسلط
 غالب کرتا ہے
 Previous, ancient. (سلف) سلف
 پہلے۔ اگلے
 That which was past. (سلف) سلف
 جو آگے ہوا یا گذرا
 They abused or irritated. (سلق) سلقوا
 انہوں نے تیز کیا یا بھڑکایا
 Walked. (سلك) سلك
 چلا
 We cause you to walk. (سلك) سلك
 ہم چلاتے ہیں
 He causes to walk. (سلك) سلك
 وہ چلاتا ہے
 Obedience to the doctrine of Islam. (سلم) سلم
 اسلام کا مطیع ہونا
 He submitted. (سلم) سلم
 اوسنے گردن دکھی
 Preserved or delivered. (سلم) سلم
 اوسنے بچایا
 You submitted or handed over. (سلم) سلم
 تم نے سپرد کیا
 Greetings. (سلم) سلم
 سلام کرو
 Perfect, sincere. (سلم) سلم
 کامل۔ بے عیب
 A greeting of peace. (سلم) سلم
 دعا
 Obedience. (سلم) سلم
 تابعداری
 He was submitted. (سلم) سلم
 وہ فرمانبردار ہوا
 Both obeyed. (سلم) سلم
 دونوں نے حکم مانا
 Submitted. (سلم) سلم
 تابع ہوئے

تم تابع ہوئے You were submitted. (سلم) سلم
 میں تابع ہوا I was submitted. (سلم) سلم
 ہم تابع ہوئے We were submitted. (سلم) سلم
 تو فرمانبردار ہو Submit thou. (سلم) سلم
 تم فرمانبردار ہو You submit. (سلم) سلم
 تم حکم مانو گے You will obey. (سلم) سلم
 حکم بجا لاؤ To obey. (سلم) سلم
 تم سلام کرو گے You will greet. (سلم) سلم
 فرمانبردار Obedient. (سلم) سلم
 پیروی کرنے والے Believers. (سلم) سلم
 ایمان والی عورتیں Believing women. (سلم) سلم
 سونپی گئیں Were handed over. (سلم) سلم
 ہم اسلام لائے ہیں We believe in Islam. (سلم) سلم
 سونپتا ہے Hands over. (سلم) سلم
 اسلام لائے ہیں Are believing in Islam. (سلم) سلم
 قبول کرتے ہیں Are accepting. (سلم) سلم
 خود اپنے گردن جھکانے والے Those who resign themselves to God. (سلم) سلم
 سليمان Soloman. (سلم) سلم
 بتمیریں Quails. (سلم) سلم
 سوراخ A hole. (سلم) سلم
 نہایت گرم و جھلسا نہ والی ہوا A hot wind, a pestilential scorching wind. (سلم) سلم
 آسمان Heaven. (سلم) سلم
 آسمانوں Heavens. (سلم) سلم
 نام A name. (سلم) سلم
 ناموں Names. (سلم) سلم
 نام رکھا گیا Was named. (سلم) سلم
 نام رکھنا The act of naming. (سلم) سلم

Is being named. وہ نام رکھا جاتا ہے

Are naming. نام رکھتے ہیں

Ear, to hear. کان-سننا

He heard. اوسنے سنا

They heard. انہوں نے سنا

f. She heard. اوسنے سنا

You heard. تم نے سنا

We heard. ہم نے سنا

One who hears. سننے والا

Hearers, audience. سننے والے

I am hearing. میں سنتا ہوں

Hear thou. تو سن

You hear. تم سنو

He declared or announced, he made to hear. اوسنے سنایا

What hearest. کیا سنتا ہے

Thou art hearing. تو سنتا ہے

You are listening. تم سنتے ہو

You are hearing well. تم خوب سنتے ہو

Thou hearest. تو سنتا ہے

One who makes to hear or announces. سنانے والا

One who was made to hear. سنایا گیا

One who is hearing. سننے والا

Those who hear. سننے والے

We are hearing. ہم سنتے ہیں

He hears. وہ سنتا ہے

He hearkeneth. وہ سنتا ہے

Are hearing. سنتے ہیں

He hears. وہ سنتا ہے

Not hearing well. خوب نہیں سنتے

A highest part of the interior of a building. مکان کے اندر کی بلندی

Fat. موٹا

Fat. موٹے

Does not fatten. موٹا نہیں کرتا

A tooth. دانت

A law. دستور-قانون

Ordinances. طرز-طریقے

Splendour. روشنی

A several years. کئی برس

To be musty, mouldy through age. برس-بوسیدہ-پرانا

Becomes musty. سرتا ہے

Musty, mouldy through age. سرتی ہوئی

Ears of corn. اناج کے خوشے یا بالیں

An ear of corn. بالی-خوشہ

Fine silk. ایک قسم کا ریشمی کپڑا

Evil. برا

Wickedness. بدذاتی

Evils, shame, secret parts. شرم-بدذاتیاں

Evil actions. برے کام

Wickedness. برائی

One who was vexed. برا کیا گیا-سنایا گیا

Are doing. کر رہے ہیں

Wickedness. بدی

Worst. نہایت بری

Equal. برابر

Right, correct. درست-سیدھا

Made equal. برابر کیا

He made right or equal. درست یا برابر کیا

I made equal. میں نے برابر کیا

f. Being corrected. درست ہوتی ہے

Right, firm. قائم-سیدھا

f. Rested. وہ قائم رہی

Go up into. چڑھ یا سوار ہو

You went into. چڑھے یا سوار ہوئے

We are making equal. ہم برابر کرتے ہیں

Getting equal. برابر ہوتا ہے

Both are being equal. دونوں برابر ہوتے ہیں

Name of an idol. ایک بت کا نام ہے

A chapter of Quran. سورۃ کا ایک باب

Chapters. ابواب

A wall. دیوار

Climbed over the wall. پر چڑھ

A bracelet. کنگی

Bracelets. کنگیاں

A market-place. سوق

۱. ۱. Drives, conducted. ھانکا گیا۔ چلایا گیا
 ۲. ۲. Are conducting. ہم چلاتے ہیں
 ۳. ۳. Are being driven or drawn. کھینچے جاتے ہیں
 ۴. ۴. The act of driving. چلنا
 ۵. ۵. To go, travel. چلنا (جاری)
 ۶. ۶. Wander, journey. سفر۔ پھرنا
 ۷. ۷. Those who travel. سیر کرنے والے
 ۸. ۸. Was made to go. چلائی گئی
 ۹. ۹. They went. وہ چلے گئے
 ۱۰. ۱۰. We are causing to pass away. ہم چلاتے ہیں
 ۱۱. ۱۱. Causes to pass away. چلاتا ہے
 ۱۲. ۱۲. State, condition, nature. حالت۔ عادت
 ۱۳. ۱۳. A scourge. کوزا (ساط)
 ۱۴. ۱۴. Near at hand. بالکل قریب ہے
 ۱۵. ۱۵. He contrived or suggested. اوسنے ترغیب دی
 ۱۶. ۱۶. Prepared. اوسنے درست کیا
 ۱۷. ۱۷. To ask, questioning. پوچھنا (سال)
 ۱۸. ۱۸. Was asked for. مانگا گیا

۱. ۱. He who asked. وہ پوچھا گیا
 ۲. ۲. Was asked. پوچھی گئی
 ۳. ۳. Were asked. پوچھے گئے
 ۴. ۴. I am asking. میں مانگتا ہوں
 ۵. ۵. Ask. مانگو
 ۶. ۶. Thou art questioning. تو سوال کرتا ہے
 ۷. ۷. You are asking. تم پوچھتے ہو
 ۸. ۸. Thou shalt be asked. تو پوچھا جائگا
 ۹. ۹. You shall be asked. تم پوچھے جاؤ گے
 ۱۰. ۱۰. You are asking amongst yourselves. تم آپس میں پوچھتے ہو
 ۱۱. ۱۱. We are asking. ہم پوچھتے ہیں
 ۱۲. ۱۲. We are being asked. ہم پوچھے جاتے ہیں
 ۱۳. ۱۳. Asks. پوچھتا ہے
 ۱۴. ۱۴. Are asking. پوچھتے ہیں
 ۱۵. ۱۵. Is being asked. پوچھا جاتا ہے
 ۱۶. ۱۶. Are being asked. پوچھے جاتے ہیں
 ۱۷. ۱۷. Asking one another. آپس میں پوچھتے ہیں
 ۱۸. ۱۸. Ask thou. تو پوچھو
 ۱۹. ۱۹. I am asking or requesting. میں مانگتا ہوں

۱. ۱. Thou ask or request. تو مانگ
 ۲. ۲. You ask. مانگو
 ۳. ۳. One who was asked. پوچھا گیا
 ۴. ۴. Those who were asked. پوچھے گئے
 ۵. ۵. A plain or soft ground. میدان۔ نرم جگہ
 ۶. ۶. A sign, mark. نشان
 ۷. ۷. You are suffering or grieving. تم ملول ہوتے ہو
 ۸. ۸. You lead out to grazing. تم چرانے ہو
 ۹. ۹. He tastes. وہ چکھتا ہے
 ۱۰. ۱۰. They are tasting. وہ چکھتے ہیں
 ۱۱. ۱۱. Which was marked. شان کی گئی
 ۱۲. ۱۲. Those who were marked. نشان کئے گئے
 ۱۳. ۱۳. Those who make a mark of distinction. نشان کرنے والے
 ۱۴. ۱۴. A brook, torrent. چشمہ۔ تالاب
 ۱۵. ۱۵. We caused to flow. ہم نے بہایا
 ۱۶. ۱۶. (سینن) سینا
 ۱۷. ۱۷. Sinai territory. کوہ سینا کا علاقہ
 ۱۸. ۱۸. (سینن) سینا

ش

۱. ۱. He desired, wished. اوسنے چاہا
 ۲. ۲. Thou hast desired or wished. تو نے چاہا
 ۳. ۳. You both desired or wished. تم دونوں نے چاہا
 ۴. ۴. You wished. تم نے چاہا
 ۵. ۵. We wished. ہم نے چاہا
 ۶. ۶. Thou art willing or desirous. تو چاہتا ہے

۱. ۱. You are willing. تم چاہتے ہو
 ۲. ۲. We are willing. ہم چاہتے ہیں
 ۳. ۳. He wishes. وہ چاہتا ہے
 ۴. ۴. Are willing. چاہتے ہیں
 ۵. ۵. A thing, matter. معاملہ۔ چیز
 ۶. ۶. Things, matters, affairs. معاملات۔ چیزیں
 ۷. ۷. That which is fixed in horrors, as the sight of the eyes. اوپر لگنے والی

۱. ۱. Will be fixed in horror. اوپر لگ جائیگی
 ۲. ۲. Bank of a river or valley. دریا یا وادی کا کنارہ
 ۳. ۳. The stalk of a plant. دتھل۔ خوشہ
 ۴. ۴. A similitude, mode, likeness. عادت۔ طریقہ
 ۵. ۵. A similitude, likeness. مانند
 ۶. ۶. That which is lofty. بلند

شان (شان) A matter, business, thing. گم-ماملہ

Was made alike. مشابہہ کیا گیا

That which is similar. جو شبہہ میں ڈالتے ہیں

Observed a mutual likeness. شبہہ پڑا

Was alike. مانند ہوئی

Alike. یکساں

Alike, metaphorical, ambiguous. استعارہ

Winter. موسم سرما

Separated, divided into classes. الگ الگ-پراگندہ

Displaced articles or things. پراگندہ چیزیں

A plant, tree. پودھا-درخت

Matter of controversy. تنازعہ

A plant, a tree. پودھا یا ایک درخت

Avarice. بخل

Fats. چربیوں

Strong, violent. زبردست-تند

We hardened. ہم نے سخت کیا

Bind firmly. مضبوط کرو

Powerful, most strong. زوردار-سخت

Strong. مضبوط

Was made strong or hard. مضبوط کی گئی

He forced or violated against. آسنے زور کیا یا سرکشی کی

Very hard. بہت سخت

Strength and power. زور اور قوت

Most strong. نہایت زبردست

I will strengthen. مضبوط کرونگا

More or most through. اشد

We are strengthening. ہم مضبوط کرتے ہیں

Evil, بدی (شر) شر

Sparks of fire. آگ کی چنگاریاں

To drink, a beverage. پینا-پینے کی چیز

He drank. اوسنے پیا

A portion of water. ایک مرتبہ پینے کا پانی

They drank. اونہوں نے پیا

We are drinking. ہم پیتے ہیں

A drinking place. پینے کی جگہ

Drinking places. پینے کی جگہیں

He drinks. وہ پیتا ہے

Are drinking. پیتے ہیں

He opened. اوسنے کھولا

Open thou. تو کھول

We are enlarging. ہم کشادہ کرتے ہیں

Is being expended. کشادہ ہوتا ہے

Disperse. بھگانا

A small band of men. چند آدمیوں کی جماعت

To the east, eastern. پورب کی طرف

Towards sunrise. سورج نکلنے کی طرف

The place of sunrise, the East. سورج نکلنے کا مقام-پورب

The two Easts or the two places where sun rises in winter and summer. سورج نکلنے کے دو مقام

At sunrise. سورج نکلنے کے وقت

Eastern parts. پورب

Share-holding. شریک

He associated. شریک

They associated. شریک

Thou associated. شریک

You associated. شریک

Thou art associating. شریک

You are associating. شریک

One who gives associates. شریک

Those who give associates. شریک

One who gives associates. شریک

Those who give companions. شریک

Those who partake or share. شریک

We make companions. شریک

He gives companions. شریک

Are giving associates. شریک

Are giving companions. شریک

One who is being associated. شریک

Associate thou, share. شریک

They (شری) شریک

You do not perceive.

تم شعور نہیں رکھتے ہو

A place appointed for sacred rites. مذہبی رسوم کے ادا کرنے کو ایک منتخب جگہ

A place in the neighbourhood of Mecca. مکہ میں ایک جگہ ہے

Are knowing, or having understanding. جانتے ہیں

Will inform, make known. خبر کریگا

Affected in the hearts core, inspired with violent love. مودہ-لیا-فریفتہ کیا

Work, occupation. کام-پیشہ

He has occupied or employed. اوسنے کام میں لگایا

Cure, healing. آرام

Cures, heals. شفا دیتا ہے

A brink. کنارہ

Intercession. سفارش

Those who intercede. سفارش کرنے والے

Intercessors. سفارش کرنے والے

Are interceding. سفارش کرتے ہیں

Interceding. سفارش کرتا ہے

One who intercedes. سفارش کرنے والا

A pair, double. جوڑا

The two lips. دو ہونٹھے

Redness of the sky after sunset. سورج تدرینے کے وقت کی سرخی

You feared, تم ڈرے

They feared. وہ ڈریں

Those who fear. ڈرنے والے

Split, chaved. پھٹا-پھارنا

Trouble. ترائی

Hardship. سختی

We asundered. ہم نے پھارنا

A distance, a long way. دور دراز سفر

You are resisting. تم ضد کرتے ہو

Has asundered. وہ پھٹا

f. Asundered. وہ پھٹی

Is being asundered. وہ پھٹتا ہے

Opposes. مخالفت کرتا ہے

Wretchedness. بدبختی

Are made miserable. بدبخت کئے گئے

Miserable, unhappy. کم بخت

He becomes most wretched or miserable. وہ بدبخت ہوتا ہے

Thou shalt undergo a hard labour. تو سخت محنت میں پڑیگا

He shall undergo a hard labour. وہ سخت محنت میں پڑیگا

A doubt, deception. شک-دھوکا

To be grateful. احسان مند ہونا

He was grateful. اوسنے احسان مانا

You were grateful. تم نے احسان مانا

To thank, to show gratitude. شکر یہ ادا کرنا

One who is grateful. شکر گزار

I shall be grateful. میں احسان مانوںگا

Be grateful. تم احسان مانو

You are grateful. تم احسان مانتے ہو

One who gives thanks. احسان ماننے والا

Thankful. شکر گزار

Gratefully accepted or acceptable. شکر یہ کے ساتھ قبول کیا-قابل قبول

He thanks. وہ شکر کرتا ہے

Are thanking. شکر کرتے ہیں

هم خرید کرتے ہیں... to buy, to take into ex-... they are buying. ہیں... Buys. خرید کرتا ہے... Are buying. مول لیتے ہیں-خرید کرتے ہیں... To lay down a law. قاعدہ یا قانون مقرر کرنا... A law. قانون-قاعدہ... He instituted. اوسنے مقرر کیا... Appearing openly or manifestly on the water. ظاہرا پانی پر آنے والے... They laid down. اونہوں نے تہرایا... A side, in the direction of. طرف... An extravagant falt or lie. مبالغہ آمیز بات یا جھوٹ... Thou art acting unjustly. تو زیادتی کرتا ہے... A large tribe, a nation. جماعتیں-کری قوم... Moses's Father-in-law. موسیٰ کے خسر کا نام... Signs, rites, ceremonies. دستورات-نشانیوں... Poetry. نظم... Hair. بال... A poet. نظم لکھنے والا... Poets. شعر کہنے والے... the Dog-star which was war-... by the Arabs in Pagan times.

شمال (شمال) The left hand side. بائیں ہاتھ کی طرف

Left side. بائیں طرف

The sun. سورج (شمس) شمسی

Hatred. نفرت-دشمنی (شنا) شنان

Flames without smoke. بغیر دھوئیں کے شعلے (شواظ) شواظ

A mixture. ملاوت (شاب) شوب

A consultation. مشورہ (شار) شوری

Consulting with one another. باہم مشورہ کرنا (شاور) شاور

To consult. مشورہ کرنا (شاور) شاور

Made sign. آسنے نشان دیا یا بلایا (اشارات) اشارت

Weapons, arms (party without arms) کانتا-ہتھیار کانتا (شاک) شوکت

Roasted, scalded. تلا ہوا-بھنا ہوا (شوی) شوی

Is roasting. بھونتا ہے (یشوری) یشوری

A flaming fire. شعلہ زن آگ (شہب) شہاب

Flames. شعلے (شہب) شہب

Witness, testimony. گواہی (شہد) شہادۃ

Testimonies. گواہیاں (شہادات) شہادات

He gave testimony. اوسنے گواہی دی (شہد) شہد

You gave testimony. (شہدتم) شہدتم

They gave evidence. اولہوں نے گواہی دی (شہدوا) شہدوا

We gave evidence. ہم نے گواہی دی (شہدنا) شہدنا

Witnesses. گواہ (شہداء) شہداء

A witness. گواہ (شہید) شہید

Two witnesses. دو گواہ (شہیدین) شہیدین

Witnesses. گواہوں (شہدون) شہدون

They are giving evidence. وہ گواہی دیتے ہیں (نشہد) نشہد

You are giving evidence. تم گواہی دیتے ہو (نشہدون) نشہدون

Witnesses. گواہوں (اشہاد) اشہاد

He made witness. اوسنے گواہ دکھا (اشہد) اشہد

Make witness. گواہ کر (اشہد) اشہد

Be witness. گواہ ہو (اشہد) اشہد

I made witness. میں نے گواہ کیا (اشہدت) اشہدت

Have or make witness. گواہ رکھو (اشہدوا) اشہدوا

You are witness. تم گواہ ہو (اشہدوا) اشہدوا

Giving evidence. گواہی دینی (مشہد) مشہد

That which was witnessed. گواہی دیا گیا (مشہدون) مشہدون

We shall give testimony. ہم گواہی دینگے (نشہد) نشہد

ص

The Sabeans. ستارہ پرست (صبا) صائبون

A companion, associate. ساتھی-رفیق-یار (صحب) صاحب

A consort, wife. عورت-جوڑو (صاحبة) صاحبة

Two companions. دو یار یا ساتھی (صاحبی) صاحبی

Thou shalt keep in company. تو ساتھ رکھینگا (تصاحب) تصاحب

To be kept in company. مصاحبت کئے جائیں (صاحبون) صاحبون

Keep company. ساتھ رہو (صاحب) صاحب

Deafening noise. بڑی سخت یا زور کی آواز (صاخة) صاخة

Swift. نہایت تیز رو (صافذات) صافذات

Those who hold their peace. سچ رہنے والے (صامتون) صامتون

To pour over. ڈالنا (صب) صب

He poured over. اوسنے ڈالے (صب) صب

Were poured out. ڈالے گئے (صبوا) صبوا

We poured. ڈالے (صبنا) صبنا

صبح-پہلے The morning, the dawn.
صبح-پہلے
صبح-پہلے Early in the morning. فجر کو
صبح-پہلے Will do early in the morning. صبح کریگا
صبح-پہلے Will be. ہونگے
صبح-پہلے One who does anything in the morning. صبح کو کرنے والا
صبح-پہلے They became. وہ ہوئے
صبح-پہلے She was. وہ ہوئی
صبح-پہلے Morning light. صبح کی روشنی
صبح-پہلے To become in the morning. تو صبح کو ہو جائے
صبح-پہلے You rise in the morning. تم صبح کرتے ہو
صبح-پہلے A lamp. چراغ
صبح-پہلے Lamps. چراغوں
صبح-پہلے To endure. برداشت کرنا۔ سہارنا (صبر)
صبح-پہلے He endured. اوسنے محنت کی برداشت کی
صبح-پہلے You endured. تم نے سہارا
صبح-پہلے We endured patiently. ہم نے صبر کیا
صبح-پہلے They endured patiently. اونہوں نے صبر کیا
صبح-پہلے A great patient. بڑا صبر کرنے والا
صبح-پہلے One who is patient. صبر کرنے والا
صبح-پہلے Those who are constant or patient. صبر کرنے والے
صبح-پہلے One who is persevere. برداشت کرنے والی
صبح-پہلے Those who are persevering. برداشت کرنے والیاں
صبح-پہلے You persevere. تم برداشت کرو
صبح-پہلے Be patient thou. تو برداشت کر
صبح-پہلے Excel thou in patience. تو سہارا

صبح-پہلے Be you constant. تم ثابت قدم رہو یا برداشت کرو
صبح-پہلے Very patient. بڑا برداشت کرنے والا
صبح-پہلے You will excel in patience. تم برداشت کرو گے
صبح-پہلے You will suffer patiently. تم صبر سے برداشت کرو گے
صبح-پہلے We are suffering patiently. ہم سہارنے ہیں
صبح-پہلے He suffers patiently. وہ سہارنا ہے
صبح-پہلے Are suffering or bearing. صبر کرتے ہیں
صبح-پہلے Sauce. قورمہ۔ سالن (صبح) صبخ
صبح-پہلے To dye, Baptism. رنگنا۔ غوطہ دینا
صبح-پہلے A male child. لڑکا (صبا) صبی
صبح-پہلے Dishes. وکابیاں (صحف) صحاف
صبح-پہلے A leaf or page of a book, a book. صفحہ یا کتاب
صبح-پہلے Big rock. بڑا پتھر (صخر) صخر
صبح-پہلے A rock. ایک پتھر صخرۃ
صبح-پہلے To hinder. مزاحم ہونا
صبح-پہلے He hindered. وہ مزاحم ہوا
صبح-پہلے Was hindered. مزاحمت کیا گیا
صبح-پہلے You hindered. تم نے مزاحمت کی
صبح-پہلے We diverted. ہم نے روکا یا مزاحمت کی
صبح-پہلے The act of hindering. مزاحمت روکنا
صبح-پہلے They hindered. اونہوں نے مزاحمت کی
صبح-پہلے Were diverted. مزاحمت کئے گئے
صبح-پہلے He diverts. وہ روکتا ہے
صبح-پہلے Are diverting. روکتے ہیں
صبح-پہلے The serum in a wound, perulent matter. مواد۔ پیپ
صبح-پہلے The bosom, the breast. سینہ (صدر) صدر

صبح-پہلے Breasts. سینے یا چھاتیاں
صبح-پہلے Will proceed or go down. آئیگا
صبح-پہلے Will return. پھرےگا
صبح-پہلے Expound. پھوڑنا۔ پھٹنا (صدع) صدع
صبح-پہلے Expound into pieces. پارہ پارہ
صبح-پہلے Will have to suffer from headache. درد سر کی تکلیف اٹھائینگے
صبح-پہلے To be divided. جدا جدا ہونگے
صبح-پہلے He has turned aside. اوسنے پھلوتھی کیا
صبح-پہلے Are turning aside. کنارہ کرتے ہیں
صبح-پہلے Two gates. دو پھاٹک
صبح-پہلے The truth. حق۔ سچ
صبح-پہلے He spoke the truth. اوسنے سچ کہا
صبح-پہلے Have spoken the truth. سچ بولے
صبح-پہلے Thou hast spoken the truth. تو نے سچ کہا
صبح-پہلے Thou hast spoken the truth. تو نے سچ کہا
صبح-پہلے We spoke the truth. ہم نے سچ کہا
صبح-پہلے He confirmed or believed in the truth. اوسنے سچا مانا
صبح-پہلے We believed in the truth. ہم نے سچا مانا
صبح-پہلے Very truthful. بڑا سچا
صبح-پہلے A friend. یار۔ دوست
صبح-پہلے Very truthful. بڑی سچی
صبح-پہلے Very truthful. بڑے سچے
صبح-پہلے Very sincere. بڑا وفادار
صبح-پہلے To confirm. درست جاننا
صبح-پہلے You are believing. تم سچا مانتے ہو
صبح-پہلے Tester, one who confirms. سچا ماننے والا

Those who verify or confirm. **مصدقین** سچا ماہر اقرار کرنے والے

Those who verify. **مصدقات** سچا جاننے والیاں

He believes. **یصدق** وہ سچا جاننا ہے

They are believing. **یصدقون** وہ سچا جانتے ہیں

Truthful. **صادق** سچا

Truthful. **صادقات** سچی

Truthful. **صادقون** سچے

Alms. **صدقة** خیرات

Alms. **صدقات** خیراتیں

A dowery. **صدقات** چیز یا مہر

I will or shall give alms. **أصدق** میں خیرات کرونگا

Give thou alms. **تصدق** تو خیرات کر

You give alms. **تصدقوا** تم خیرات کرو

He gave alms. **تصدق** اوسنے خیرات کی

We pay penalty or retaliation. **نصدق** ہم تاراں دیتے ہیں

Are giving alms. **یصدقوا** خیرات کرتے ہیں

Those who give alms or pay retaliation **متصدقین** تاراں دینے والے

Those who pay penalty. **متصدقات** تاراں دینے والیاں

Excessive cold that scorches plants. **ص** سخت سردی-پالا

A loud cry. **صرۃ** فریاد

A loud noise. **صر** زور کا شور

They persisted. **اصروا** اذہوں نے ضد کی

Acting obstinately. **یصر** ضد کرتا ہے

Are persisting. **یصرون** ضد کرتے ہیں

They did not persist. **لم یصروا** اذہوں نے ضد نہ کی

A way, and specially an open way, the name of a bridge over Hell. **صراط** راہ-پل دوزخ

A palace, a high tower. **صرح**

A loud roaring and furious wind. **صرصر** تیز و تند ہوا

One who is subject to corea, lying prostrate. **صرعی** مرض مرگی کا مریض

To turn, turn away. **صرف** پھیرنا

He turned away. **صرف** اوسنے پھیرا

Was turned, **صرفت** پھیری گئی

We diverted. **صرفنا** ہم نے پھیرا

We diverted over and over again. **صرفنا** ہم نے بار بار پھیرا

I will divert. **أصرف** میں پھیرونگا

Turn thou or avert thou. **إصرف** تو پھیرو یا ہٹا

Thou shalt avert. **تصرف** تو پھیرونگا

You will be diverted. **تصرفون** تم پھیرے جاؤ گے

Turning or averting. **تصرف** پھیرنا

A place to turn to, a refuge. **مصرف** پناہ گاہ-پھیرنے کی جگہ

Was returned to. **مصرف** پھیرا گیا

We are averting. **نصرف** ہم باز رکھتے ہیں

We are averting over and over again. **نصرف** ہم بار بار پھیرتے ہیں

He turns. **یصرف** وہ پھیرتا ہے

Will be turned. **یصرف** پھیرا جائگا

Turning aside. **إنصرفو** ایک طرف پھورتے

One who brings help. **صریح** مدد گار

Implores assistance. **یستصرخ** کسی کی مدد یا فریاد چاہتا ہے

One who provides help. **مصریح** مدد گار

Imploring assistance. **یصطرخون** مدد کے لئے فریاد کرتے ہیں

A garden whose fruit has all been gathered and trees were cut from their roots. **صریم** باغ کے پھل جمع کر کے درخت جڑ سے کٹے ہوئے

Name of a mountain. **صعود** Hell

You are ascending. **تصعدون**

Ascending with alms. **یصعد**

Ascends. **یصعد** وہ چڑھتا ہے

To swoon, expire. **صعق**

He was swooned. **صعق** بے ہوش ہوا

Will be swooned. **یصعقون** کئے جائیں گے

Contempt, vileness. **صغار** خوارگی

Small. **صغیر** چھوٹا

One who is small. **صغیرۃ** چھوٹی

A row, rank. **صف** قطار-درجہ

Those who are arranging a line. **صواف** سب سے قطار باندھنے والے

Are arranged in orders. **مصفوفة** صفیں باندھی ہوئیں

Will be inclined towards. **تصغی** جھکی ہوگی

Name of a mountain. **صفا** کبر پھار کا نام

A hard stone with smooth surface. **صقوان** سخت پتھر

He has chosen. **إمطفی** پسند کیا

I selected. **إمطفیت** میں نے پسند کیا

We selected. **إمطفینا** ہم نے پسند کیا

Selects or chooses. **یصطفی** پسند کرتا ہے

Are chosen. **مصطفین** پسند کیے جاتے ہیں

Chastity. **مصطفی**

One who is righteous, name of a Prophet. ایک نیک مرد

Two good men. دو نیک مرد

Good or righteous men. نیک آدمی

Righteous Women. نیک عورتیں

Hard stone. سخت پتھر

Dry clay. خشک گارا

A Prayer, دعا نماز

Prayers. دعائیں-نمازیں

He performed or said prayers. اوسنے نماز پڑھی

Thou offer prayer. تو نماز پڑھ

Thou art saying prayer. تو نماز پڑھتا ہے

A place of prayer. نماز کی جگہ

They have said prayers. انہوں نے نماز پڑھی

Give blessing. درود بھیجو

Those who say prayers. نماز پڑھنے والے

He says prayers. وہ نماز پڑھتا ہے

Are saying prayers. نماز پڑھتے ہیں

One who gets nearer to the Hell fire. جہنم کے نزدیک پہنچنے والا

To burn. آگ میں جلنا

Reaches to the fire. آگ کو پہنچتا ہے

Are reaching in the fire. آگ کو پہنچتے ہیں

You roast yourselves. تم سینکو

I will thrust them (into the fire.) میں اونکو جھونکنگا

You are warming at the fire. تم تاپتے ہو

To undergo. پہنچنا

f. Will undergo. وہ پہنچے گی

Deaf. بھرا

Were deaf. بھرے ہوئے

Sublime, everlasting. دایم-بے نیاز

To make. بنانا

They made. انہوں نے بنایا

Make thou. تو بنا

You are doing or making. تم بناتے یا کرتے ہو

Thou shalt be made. تو بنایا جائگا

He makes. وہ بناتا ہے

Are making. بناتے ہیں

A cistern, cisterns, palaces. قلعے-کنوئیں-حوضیں

Thicket, other trees springing from the same root. گھنے درخت جو اوسے جڑ سے پیدا ہو

A drinking cup, measure. پیمانہ-پانی پینے کا بڑا پیالہ

Monasteries. خانقاہیں

A sound, voice. آواز

Voices. آوازیں

A form. شکل

Forms. شکلیں

He formed or fashioned. اوسنے شکل بنائی

We formed. ہم نے شکل بنائی

One who forms. شکل بنانے والا

He forms. وہ شکل بناتا ہے

A trumpet. نرسنگہ

which becomes yellow. زرد کیا گیا

A level plain. ہموار میدان

Stroke violently. تپانچہ مارا

The back-bone, or loins. پشت کی ہڈی

They crucified. انہوں نے سولی چڑھایا

Will be crucified. سولی دیا جائگا

Will be crucified. سولی دئے جائینگے

I will crucify. سولی چڑھاؤنگا

Peace, reconciliation. یگانگت-موافقت

Honest, good upright. نیک ہوا

He makes peace or reconciles. وہ صلح کرتا ہے

He reconciled. اوسنے صلح کی

You reconcile or make peace. تم صلح کرو

We have done good. ہم نے اچھا کیا

Reconcile thou. تو صلح کر

You are making peace. تم صلح کرتے ہو

He reconciles. صلح کرنے والا

Reformers. اصلاح کرنے والے

They are warming. درست کرتے ہیں

روزہ (صام) صوم Fast.

نقصان (ضرر) ضرر Necessary (for him) to fast.
چاہئے کہ روزہ رکھے

روزے کے ایام Fasting days.

روزہ رکھنے والے Those who fast.

روزہ رکھنے والی f. Those who fast.

روزہ رکھنے والیاں

روزہ رکھتا ہے He fasts.

بگھلایا جائگا Will be desolved. (صہر) یصہر

بارش (صاب) صیاب A rain.

He arrived or overtook. اصابت

f. Overtook or arrived. اصابت

I will compromise. اصب میں میل کرونگا

You overtaken. اصبت تم پھونچے

We overtaken. اصبتنا ہم پھونچے

Is arriving. اصیب وہ پھونچتی ہے

You are arriving. تصیبوا تم پھونچتے ہو

Right. صواب درست-بیشک

Who overtakes. مصیب پھونچنے والا

Did not. لم یصیب

Not overtaking. لم یصیب

A shout, might. صیحتہ

Game. (صاد) صید شکار

Chase, hunt. اصطادوا شکار کرو

Forts. (صاص) صیاصی قلعے

Summer. (صاف) صیف ایام گرما

ض

بھیڑ (ضائن) ضان Sheep.

Tucked up in the belly, that which is slender. ضامر شکم سے ستا ہوا-لاغر

Pauting. (ضبع) ضبع ہانپنا

f. She laughed. ضحکت وہ ہنسی

One who laughs. ضاحک ہنسنے والا

f. One who laughs. ضاحکۃ ہنسنے والی

Are laughing. ضاحکون ہنستے ہیں

He made to laugh. اضحک اوسنے ہنسایا

You are laughing. تضحکون تم ہنستے ہو

Time after sunrise. (ضحا) ضحلی

سورج نکلنے کے بعد کا وقت

Adversity. (ضد) ضد مخالفت

(ضر) ضر } Tribulation. مشقت-محنت
ضراء

(ضر) ضر } Hurt, injury. چوت-نقصان
ضرب

Affliction. ضرار نقصان

You will hurt. تضرون تم نقصان پھونچاؤ گے

f. Hurting. تضار نقصان پھونچاتی

You will hurt. تضاروا تم نقصان پھونچاؤ گے

One who hurts. ضرار نقصان پھونچانے والا

Those who hurt. ضارین چوت لگانے والے

One who was hurt. مضار نقصان پھونچایا گیا

He does hurt. يضضر وہ نقصان کرتا ہے

Are injuring. يضرون نقصان پھونچاتے ہیں

Will be harmed. يضضر Will be harmed.

نقصان پھونچایا جاوے گا

I will force or press. اضطر (ضر)

میں مجبور کرونگا

One who is forced to submit. اضطر مجبور کیا گیا

You forced. اضطرتم تم نے مجبور کیا

We will press. نضطر ہم مجبور کریں گے

One compelled by necessity. مضطر مجبوراً-ضرورتاً

To beat, strike. ضرب مارنا

Beaten. ضرب مارا

They stroke. ضربوا اونہوں نے مارا

You did beat. ضربتم تم نے مارا

We did beat. ضربنا ہم نے مارا

Was declared. ضرب بیان کیا گیا

Were declared. ضربوا بیان کئے گئے

f. Was declared. ضربتم بیان کی گئی

You are declaring. ضربوا بیان کرتے ہو

We are declaring. نضرب بیان کرتے ہیں

He declares. يضضر وہ بیان کرتا ہے

Are declaring. يضرون بیان کرتے ہیں

f. Are striking. يضربن مار رہے ہیں

A plant growing in Hell. (ضرع) ضرع

To humble, beat. تضرعا

Confused. ہوا گندہ

Frogs. (ضفدع) ضفادع مینڈکیاں

(ض) ضلالة } Wandering. گمراہی

ضال He has gone astray. وہ راستہ بھولا

ضالوا Have wandered. راہ بھولے

ضلت I shall err. تو میں راہ بھولا

ضلنا We shall err. تو ہم راہ بھولے

اضل One who goes more astray. بڑا گمراہ

اضل He caused to err. اوسنے گمراہ کیا

اضلا Both caused to err. دونوں نے گمراہ کیا

اضلوا They seduced. اونہوں نے گمراہ کیا

f. اضلن They seduced. اونہوں نے بھکایا

اضلتم You seduced. تم نے بھکایا

اضل I will lead astray. میں گمراہ کرونگا

تضل Thou art erring. تو بھول جاتا ہے

تضلوا You are going astray. تم بہکتے ہو

تضل Thou art seducing. تو گمراہ کرتا ہے

تضليل To seduce, to cause to err. گمراہ کرنا

مضل One who seduces. بھکانے والا

مضلين Those who seduce. بھکانے والے

يضل He seduces. گمراہ کرتا ہے

يضل One who is being seduced. گمراہ کیا جاتا ہے

يضلون Are seducing. گمراہ کرنے ہیں

ضالين Wanderers. گمراہ لوگ

ضنك (ضنك) Narrow, wretched. حقیر۔ کوتاہ

ضنين (ضن) Greedy, aviricious. بخیل

ضياء (ضاء) To enlighten, to illuminate or illumination. روشنی

f. اضاء } Illuminated. اوسنے روشن کیا

يضيي Illuminates. روشن کرتا ہے

ضير (ضار) Harm, injury. نقصان

ضيزي (ضاز) An unfair apportionment. نامناسب۔ خراب

ضيف (ضاف) A guest. مہمان

يضيفوا Are entertaining. مہمانی کرتے ہیں

ضيق (ضاق) Narrow, straitened. کوتاہی۔ تنگی

ضيق To reduce to straits, narrow. کوتاہ۔ تنگ

تضيقوا You shall trouble. تم تنگ کرو گے

ضاق Was straitened. تنگ دل ہوا

f. ضاقت Became or was straitened or troubled. تنگ دل ہوئی

ضائق That which becomes narrow or straitened. تنگ ہونے والا

يضيق Is being troubled or straitened. تنگ ہوتا ہے

ط

طوافون One who makes a circuit of Kaba. کعبہ طواف کرنے والا

طائفة A company which go round. گرد پھرنے والی گروہ

طائفتان } Two companies. دو گروہ

طائفين People who go round. چار طرف پھرنے والے

They are humbling themselves. ذاری کرتے ہیں

Weakness, infirmity. ناتوانی

نقاہت۔ ناتوانی

Very weak. بہت کمزور

Became or was weak. کمزور ہوا

Weak. کمزور

Weak, idle. سست۔ ناتوان

Weak persons. کمزور اشخاص

One who is weak. کمزور

Are being found to be weak. کمزور پائے جاتے ہیں

Considers weak. کمزور سمجھتا ہے

Double, like. مانند۔ دہرا

Two-fold. دوگنا

Two-fold. دوگنے

One who doubles. دوگنا کرنا

Those who double. دوگنا کرنے والے

He doubles. وہ دوگنا کرتا ہے

Will be made double. دوگنا کیا جائگا

A handful of green and dry grass or other herbs, broom. سبز اور سوکھی گھاس کا ہتھیما۔ جھاڑو

One who goes round about. گرد پھرنے والا

گرد پھرا

ٲٲٲٲ He goes round. ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Is made to go about. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ He goes arround. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are going arround. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are going about. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ A deluge. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Became or was clean or pure. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Became clean. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Good, agreeable, clean. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Clean people. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ You are clean. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Clean woman. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Good, or pleasing things. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Happiness, good fortune. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ A driver. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ I drove. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Thou drivest. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ That which appears by night. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ A way, road. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ A path, a line of conduct behavi- ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ our. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Tracts, ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Obedience. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Those who obey. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Obeyed. ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲ They obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ You obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ We obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Obey. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Thou shalt obey. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ You will obey. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ One who was obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ We will obey. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Obeys. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Has given one's self. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Those who give themselves wil- ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ lingly to perform good action. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ نيك كام كرنے كو خود بخود آمادے هونے والے ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ They were capable. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are not able. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Is not fit or able. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Not been able. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are obeying. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ An order will be obeyed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ قوت توانائی ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ They shall be bound with a collar. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ گردن ميں طوق پھنائے جائينگے ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are having power. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Saul, king of Israel. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ A clamity, the very great clami- ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ ty, the last judgment. ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲ He seals. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ We are sealing. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ He has signed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Extreme part, or part ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ verge, border. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Two verges, borders. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Fresh. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ An eatable thing, food. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Taste. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ You ate. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ They ate. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ To feed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ He fed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ You feed. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ We are feeding. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ He feeds. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ He is being fed or provided. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Did not eat. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Are providing or feeding. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ One who eats. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ Evil speaking. ٲٲٲٲ
 ٲٲٲٲ They committed. ٲٲٲٲ

transgressed. ادا نہیں کی

transgressed all bounds. حد سے بڑھا

most extravagant in wickedness. شرارت میں بڑھا ہوا

I caused to transgress or seduced. میں نے سرکش کیا

You will transgress. تم سرکش کرو گے

Transgressor. سرکش

A storm of thunder and lightning of extreme severity. بڑے زور کی ہوا حد سے بڑھنے والی

Lest he transgress. وہ سرکش کرتا ہے

He began. اوسنے شروع کیا

Both began. دونوں نے شروع کیا

Very young child. چھوٹا بچہ

Children. بچے

Dew. اوس

Divorcee. عورت کو چھوڑ دینا

He divorced. اوسنے چھوڑ دیا

You divorced or set free. تم نے چھوڑ دیا

Divorced women. عورتیں طلاق دی گئیں

Let go or divorce. چھوڑ دو

He departed or, went his way. وہ چلا

They two departed. وہ دو چلے

You departed. تم چلے

They departed. وہ چلے

Depart, begone. چلو

He departs. وہ چلتا ہے

A plantain tree. درخت کیلا

طَلَع (طلع) The spathe or sheath in which the flower of date-palm are enclosed بہتنی-شگوفہ

طُلُوع The rising of the sun. سورج کا نکلنا

طَلَعَتْ f. Shined. وہ چمکی

مَطْلَع Place of the sun's rising. سورج نکلنے کی جگہ

إِطْلَع Has known. وہ خبردار ہوا

إِطْلَعْتَ Thou hast known. تو خبردار ہوا

إِطْلَعُ I will look in or down. میں جھانکوں گا

تَطْلَعُ f. Will look down. وہ جھانکیگی

مُطْلِعُونَ Those who look down. جھانکنے والے

يُطْلِعُ Does inform, or manifests. آگاہ کرتا ہے

طَمَع (طمع) A desire. آرزو

أَطْمَع I hope, or desire. میں توقع رکھتا ہوں

نَطْمَعُ We desire, or hope. ہم بھروسا رکھتے ہیں

يَطْمَعُ He is covetous. وہ حرص کرتا ہے

يَطْمَعُونَ Are desiring. خواہش کرتے ہیں

طَمَسْنَا We obliterated. ہم نے مٹایا

طُمِسَتْ f. Was obliterated. مٹائی گئی

نَطْمِسُ We are obliterating. ہم مٹاتے ہیں

إِطْمَسُ Deface the features, bring to nought. نشان مٹا دیے

طَهَّرْ (طهر) Clean thou. تو پاک کر

طَهَّرَ He cleansed. اوسنے پاک کیا

طَهَّرَا Clean you both or purify. تم دونوں پاک کرو

مُطَهِّرٌ One who purifies. پاک کرنے والا

مُطَهَّرَةٌ f. Was purified. پاک کی گئی

مُطَهَّرُونَ } Were purified. پاک کئے گئے

مُطَهَّرُونَ } } He purifies. وہ پاک کرتا ہے

يُطَهِّرُ } } } They make free or purify. وہ پاک کرتے ہیں

يُطَهِّرُونَ } } } } } To clean, purify. پاک کرنا

تُطَهِّرُ Thou art cleaning. تو پاک کرتا ہے

تُطَهِّرُونَ They are being cleaned or freed. وہ پاک یا آزاد ہوتے ہیں

طَوَّاءٌ (طاد) A mountain. پہاڑ

طَوَّارٌ (طار) A mountain. ملک شام میں ایک پہاڑ ہے

أَطْوَارٌ Conditions, states, حالت

طَوْلٌ (طال) Power, plenty of wealth. طاقت-کثرت سے دولت ہونا

طَوَّلٌ Height, prolonged. اونچائی-لمبا

طَوِيلٌ Long. لمبا

تَطْوِيلٌ To be prolonged. اونچا ہونا

طَوِيٌّ (طوي) Name of a valley near Sinai. وادی سین کا نام

طَيٌّ The act of rolling up. لپیٹنا-لپیٹنا

طَيَّرَاتٌ f. Get rolled up. لپٹ گئی

طَائِرٌ (طار) Birds. پرندے

طَائِرٌ A flying thing. اڑنے والا

يُطَيِّرُ Flying. اڑتا ہے

تَطْيِيرٌ We presaged an evil thing or drawn an evil augury. ہم نے بدبخت دیکھی

يُطَيِّرُوا They augured. اداہوں نے قرعہ ڈالا

مُسْتَطِيرٌ That which spreads itself far and wide. خود بخود دور دور پھیلنے والا

طِينٌ (طان) Clay. چکنی مٹی

مِغْرَاب (مغرب) Migration.

اپنے ملک سے دوسری جگہ چلے جاں

ظفر (ظفر) A nail, or claw. ناخنوں یا پنجنہ

ظفر (ظفر) Gave victory. فتح دی

ظلم (ظلم) Continued whole day.

تمام دن رہا

ظل Shade. پرچھائیں

ظلال Shades, shadows, groves.

سایہ دار جگہیں

ظلة A covering, roof. سائبان

ظلال Coverings, roofs. سائبانوں

ظلالنا We overshadowed. ہم نے سایہ کیا

ظلیل Shady or cold shadow.

سایہ دار یا ٹھنڈا سایہ

ظلمات Thou become. تو ہوا

ظلمت You became. تم ہوئے

ظلموا Continued whole day. سارا دن ہوئے

ظلمت f. Continued whole day.

وہ سارا دن ہوئی

ظلم We will continue all day.

ہم سارا دن رہینگے

يظلمن Are becoming. ہوتی ہیں

ظلم (ظلم) Wrong, injustice. بے انصافی

ظلم He acted wrongly.

اوسنے بے انصافی کی

ظلموا They acted unjustly.

اونہوں نے بے انصافی کی

ظلمت He oppressed. اوسنے ظلم کیا

ظلمتم You oppressed. تم نے ظلم کیا

ظلمت I oppressed. میں نے بے انصافی کی

ظلمنا We injured. ہم نے بے انصافی کی

ظلم Was injured. تکلیف دیا گیا

ظلموا Were injured. تکلیف دئے گئے

ظلم Unjust. بے انصاف

ظلمون Unjust people. بے رحم لوگ

ظلمة Unjust woman. بے رحم عورت

ظلم Very unjust. بڑا ظالم

ظلمات Darkness. تاریکی-اندھیری

اظلم He injured. اوسنے ظلم کیا

اظلم Most unjust. بڑا اندھیر کرنے والا

تظلم Thou art doing injustice.

تو ظلم کرتا ہے

تظلمون You are doing injustice.

تم ظلم کرتے ہو

تظلم Thou shalt be injured.

تو ظلم کیا جائگا

تظلمون You will be injured

تم ظلم کئے جاؤ گے

مظلم One who is in the dark.

اندھیرا کرنے والا-جو اندھیرے میں ہے

مظلمون Those who are in the dark.

اندھیرا کرنے والے-جو تاریکی میں ہیں

مظلم One who is treated unjustly.

اندھیر کیا ہوا-ستم رسیدہ

يظلم Causes wrong. اندھیر کرتا ہے

يظلمون Are committing injustice.

اندھیر کرتے ہیں

يظلمون Will be wronged.

اندھیر کئے جائینگے

ظالمی Those who do wrong. برا کرنے والے

لايظلم Does not injure. ظلم نہیں کرتا

ظما Thirsty. پیاسا

تظم Thou shalt be thirsty. تو پیاسا ہوگا

ظن Thought. خیال

ظن Bath, opinion.

ظن They imagined.

ظنم You imagine!

ظننت I imagined or thought.

ظننا We thought.

ظنون Opinions, imaginations.

ظانین Those who form a bad opinion.

ظن Thou art thinking.

ظنم You are thinking.

اظن I am thinking.

ظنن We are thinking.

يظن He thinks.

يظنون Are thinking.

ظہر Appeared.

ظہر The back.

ظہور Backs.

ظہیر A helper.

ظہیر Thrown behind the back.

ظہیر neglect.

ظہیر Mid-day heat.

ظہر Apparent, manifest, outward.

ظہور Conspicuous, victorious.

ظہور f. Apparent, manifest.

ظہورا They appeared.

وہ کہتا ہے He manifests.

دکھاتے ہیں Are manifesting.

Helping among themselves. یظاہرون

آپس میں مدد کرتے ہیں

Both helped to each other. تظاہراً

ہر دو نے آپس میں مدد کی

ع

Stormy, a tempestuous wind. (عصف) عاصف

تند ہوا

عاصفة

Storms, heavy winds.

سخت ہوایں

عاصفات

Barren woman. (عقر) عافر

بانجھہ

Wounded, bisected the hamstrings. عقر

اُرسنے کوچیں کاٹیں

They wounded or cut the hamstrings. عقر

انہوں نے کوچیں کاٹیں

One who remains constantly in any place assiduously devoting one's-self to. (عكف) عاكف

اوندھا

Those who remain constantly in any place. عاكفون

سجدہ میں اوندھے

Was detained, kept back. معكوف

باز دکھا گیا

A year. (عام) عام

بوس

Two years. عامین

دو برس

To adore. (عبد) عبادا

پوجنا

A servant of God. عبد

بندہ-خدا کی عبادت کرنے والا

Two servants of God. عبدین

دو عبادت کرنے والے

Worshippers. عبدید

بندگی کرنے والے

He worshipped. عبد

اوسنے عبادت کی

You worshipped. عبدتم

تم نے عبادت کی

We worshipped. عبدنا

ہم نے عبادت کی

Thou hast enslaved. عبدت

تو نے غلام بنایا

I am worshipping. اعبد

میں عبادت کرتا ہوں

Thou worship. اعبد

تو بندگی کر

You worship. اعبدوا

تم بندگی کرو

You are worshipping. تعبدون

تم بندگی کرتے ہو

We will worship. نعبد

ہم عبادت کریں گے

One who worships, a worshipper. عابد

عبادت کرنے والا

Worshippers. عابدون

عبادت کرنے والے

Worshippers. عابدات

عبادت کرنے والیاں

He is worshipping. يعبد

وہ عبادت کرتا ہے

Are worshipping. يعبدون

عبادت کرتے ہیں

Useless. (عبدث) عبدث

بے مصرف-بے فائدہ

Amusing themselves, jest, sport. تعبدون

کھیلتے ہیں-کھیل-تماشہ

He frowned. (عبس) عبس

اوسنے نیوری چڑھائی

Austere, dismal-looking. عبوس

آداس

A kind of rich carpet. (عبر) عبقری

نمیس اور خوش قطع قالین

To oppose, insolence. (عنا) عنو

سرکشی کرنی

They rebelled, obstinated. عتوا

انہوں نے سرکشی کی

Offered an insolent opposition. عنت

اوسنے سرکشی کی

Obstinate, a decrepit old man. عتی

سپتیا یا ہوا-سرکش

Exceeding, violent. عاتية

سرکش

Violent, cruel. (عتل) عتل

ظالم-بدخو

Drag him. اعلو

اوسکر گھسیٹو

Ancient. (عتق) عتیق

قدیم

Poor. فریب

Parenty. محتاجی

Those who pass over. (عبر) عابرون

To have an instructive warning. عابرون

تذکرہ دار ہونا

Take an instructive warning. عابرون

عبرت پکڑو

You are interpreting. عابرون

تم مطلب بتاتے ہو

Decendents from Ad the great-grandson of Shem. (عاد) عاد

بزرگان عاد کی اولاد

Returned. عاک

Were turned. عاکوا

(If) You did again. عاکم

(If) We did again. عاکنا

You are turning. تعبدون

He turns. يعبد

Are returning. يعبدوا

Being inclined. عابرون

We will return. عابرون

we will repeat or return. عابرون

ہم اعادہ کریں گے

A place whither one returns. عابرون

پہرنے کی جگہ

Returned to return to the same place. عابرون

جبراً پہرنے کے لیے

festival. عابرون

تیار Ready. (معد) عَدَّ

اوسنے تیار کیا He performed. اَعَدَّتْ

ہم نے تیار کیا We performed. اَعَدْنَا

Caused to understand or were in-
formed. خبر کی گئی (عثر) عَثَرُوا

ہم نے کھول دیا We manifested. اَعْرَضْنَا

Wonderful. (عجب) عَجَاب

تعجب میں ڈالنے والا

Surprising. اچنبھا عَجَب

تو نے تعجب کیا Thou wondered. عَجَبْتَ

تم نے تعجب کیا You wondered. عَجَبْتُمْ

انہوں نے تعجب کیا They wondered. عَجَبُوا

Wonderful, delightful. نفیس۔ نادر عَجِيب

اوسنے خروش کیا Has pleased. عَجَبْتُ
عَجَبْتُمْ

Thou art being surprised. عَجَبْتُ

تو حیرت میں آتا ہے

You are causing wonder. عَجَبْتُمْ

تم اچنبھا کرتے ہو

Thou surprisest. عَجَبْتُمْ

تو تعجب کرتی ہے

Thou pleasest, delightest. عَجَبْتُ

تو خوش کرتا ہے

Pleases. عَجَبْتُ

A calf. بچھرا (عجل) عَجَل

Hastily. جلدی عَجَل

اوسنے جلدی کی He hastened. عَجَلَ

Hurry up. جلدی کر عَجَلْ

I hastened. میں نے جلدی کی عَجَلْتُ

You hastened. تم نے جلدی کی عَجَلْتُمْ

We hastened. ہم نے جلدی کی عَجَلْنَا

Hasty. جلدی کرنے والا عَجُول

اعجل } He hastened. عَجَلَ

Thou art in a hurry or acting hastily. تو جلدی کرتا ہے عَجَلْ

Hastily. نہایت جلد عَاجِلَةٌ

He is in a hurry. وہ جلدی کرتا ہے عَجَلَ

Desire not in haste. عَجَلًا

جلدی نہ چاہیں

I frustrated. میں ہارا یا تھکا (عجز) عَجَزْتُ

Roots of plum-trees. عَجَاز

کھجور کے درخت کی جڑیں

He weakens. وہ عاجز کرتا ہے عَجَزَ

Will frustrate. تھکاؤ گے عَجِزُونَ

We are weakening. عَجِزْنَا

ہم عاجز کرتے ہیں

One who weakens. عاجز کرنے والا عَجِزٌ

Those who weaken. عاجز کرنے والے عَجِزِينَ

An old woman. بوڑھی عورت عَجُوزٌ

Emaciated, leanat. (عجف) عَجْفٌ

تکیہ کے سہارے۔ لاغر

اوسنے گنا He numbered or counted. عَدَّ

A provision. سامان عِدَّةٌ

Number, numeral. شمار۔ گنتی عِدَدٌ

اوسنے تیار کیا He prepared or arranged. اَعَدَّ

انہوں نے تیار کیا They prepared. اَعَدُّوا

You prepare. تم تیار کرو اَعْدُوا

تیار کی گئی f. Was prepared. اَعْدَتْ

اوسنے خوب گنا He reckoned well. عَدَّ

گنتی f. Reckoning. عِدَّةٌ

f. Determined, computed. گنتی ہوئی۔ مستقل عِدَدَاتٌ

عَدُوٌّ

Complacent, satisfied عَدُوٌّ

Malice, wickedness عَدُوٌّ

Are transgressing, عَدُوٌّ

Injustice, hostility عَدُوٌّ

Goes beyond the limit. عَدُوٌّ

The side of a valley. عَدُوٌّ

A transgressor, wicked. عَدُوٌّ

Transgressors, wicked. عَدُوٌّ

Swift mares and camels. عَدُوٌّ

They transgressed. عَدُوٌّ

He transgressed. عَدُوٌّ

We transgressed. عَدُوٌّ

You are transgressing. عَدُوٌّ

Wicked, a transgressor. عَدُوٌّ

Wicked or transgressors. عَدُوٌّ

Are exceeding beyond the limit. عَدُوٌّ

To deal justly, to make equal. عَدَلَ

He made equal. عَدَلَ

Are making equal. عَدَلُوا

Will not make equal. عَدَلُوا

عَدَلْتُ

عَدَلْتُمْ

عَدَلْنَا

عَدَلْتُ

عَدَلْتُمْ

عَدَلْنَا

beloved wives, عورتوں کی بیویاں
 An Arabian, عرب کا رہنے والا
 The Arabs of the desert, عربستان کے عرب
 A crooked and dry date-stalk (عرجون) کھجور کی سوکھی اور تیزھی شاخ
 A throne, تخت (عرش)
 Are building a roof, چھت بناتے ہیں (يعرشون)
 Supported on trellis-work, اونچی کی گتیں (f. معروضات)
 Roofs, foundations, props, چھتیں-بنیادیں (عروش)
 Temporal goods, this world's gear, فانی اور دنیاوی مال (عرض)
 Extensiveness, کشادگی (عرض)
 Has set before, اوسنے ظاہر کیا (عرض)
 We offered, ہم نے پیش یا ظاہر کیا (عرضنا)
 Were set before ظاہر کئے گئے (عرضوا)
 Extended, چوڑا (عرض)
 You concealed in your mind, تم نے پردہ میں لیا (عرضتم)
 A shield, impediment, object, butt, سپر (عرضة)
 Leave it undone, غفلت کر (اعرض)
 To decline, منہ موڑنا (اعراض)
 Has declined, اوسنے منہ موڑا (اعرض)
 Decline, منہ موڑ (اعرض)
 Those who turn away from (معرضون) منہ موڑنے والے
 averse. (معرضون)
 You declined, تم نے منہ موڑا (اعرضتم)
 They declined, انہوں نے منہ موڑا (اعرضوا)
 Turn aside or leave it undone, تم درگزر کرو (اعرضوا)
 Declines or averses, منہ پھیرتا ہے (اعرض)
 Will decline, منہ پھیرینگے (اعرض)
 Punishes, عذاب کرنے والا
 Those who punish, عذاب کرنے والے
 Were punished عذاب دیئے گئے
 We will punish, ہم عذاب کریں گے
 Punishes, سزا دیتا ہے
 Sunset, مینا
 An excuse, بہانہ
 Excuses, بہانے
 An excuse, بہانہ
 Praising themselves, بہانہ کرتے ہیں
 Those who excuse themselves, بہانہ کرنے والے
 Do not make an excuse, بہانہ نہ کرو
 Excuse, میں نے بنا لیا
 (from God) (بھدائے) بنا لیا
 Excuse, میں نے بنا لیا
 Will decline, منہ پھیرینگے

Will be set before, وہ روپرو کیا جائیگا (يعرض)
 Will be made to appear, ظاہر کئے جائینگے (يعرضون)
 A cloud traversing the sky, آسمان پر پراگندہ ابر (اعراض)
 That which pleases, دل خوش کرنے والا (عرف)
 He recognized, اوسنے پہچانا (عرف)
 He made known, اوسنے جتا دیا (عرف)
 Name of a mountain near Mecca, مکہ کے نزدیک ایک پہاڑ کا نام (عرفات)
 They confessed, انہوں نے اقرار کیا (اعترفوا)
 We confessed, ہم نے اقرار کیا (اعترفنا)
 Purgatory, بہشت اور دوزخ کے مابین کا مقام (اعراف)
 Thou hast recognized, تو نے پہچانا (عرفت)
 Thou hast made known, تو نے جتایا (عرفت)
 They recognized, انہوں نے پہچانا (عرفوا)
 One who is known recognized, پہچانا گیا (معروف)
 f. Was recognized, پہچانی گئی (معروفة)
 Are recognizing or knowing, پہچانتے ہیں (يعرفون)
 Is being recognized, وہ پہچانا جاتا ہے (يعرف)
 f. Are being recognized, پہچانی جاتی ہیں (يعرفن)
 Are recognizing among themselves, آپس میں پہچانتے ہیں (يعرفون)
 Mounds, dams for stopping of water, زور کی در (عوم)
 A handle, دستہ (عرا)
 Has come down upon, اوسنے چھپت لیا (اعترى)
 Glory, بزرگی (عز)
 Power, honour, pride, زور-اقبال (عزة)
 Has become powerful, وہ غالب ہوا (عز)
 عذاب کرنے والا
 عذاب کرنے والے
 عذاب دیئے گئے
 ہم عذاب کریں گے
 سزا دیتا ہے
 مینا
 بہانہ
 بہانے
 بہانہ
 بہانہ کرتے ہیں
 بہانہ کرنے والے
 بہانہ نہ کرو
 میں نے بنا لیا
 (بھدائے) بنا لیا
 میں نے بنا لیا
 منہ پھیرینگے
 منہ پھیرتا ہے
 منہ پھیرینگے

Will be set before, وہ روپرو کیا جائیگا
 Will be made to appear, ظاہر کئے جائینگے
 A cloud traversing the sky, آسمان پر پراگندہ ابر
 That which pleases, دل خوش کرنے والا
 He recognized, اوسنے پہچانا
 He made known, اوسنے جتا دیا
 Name of a mountain near Mecca, مکہ کے نزدیک ایک پہاڑ کا نام
 They confessed, انہوں نے اقرار کیا
 We confessed, ہم نے اقرار کیا
 Purgatory, بہشت اور دوزخ کے مابین کا مقام
 Thou hast recognized, تو نے پہچانا
 Thou hast made known, تو نے جتایا
 They recognized, انہوں نے پہچانا
 One who is known recognized, پہچانا گیا
 f. Was recognized, پہچانی گئی
 Are recognizing or knowing, پہچانتے ہیں
 Is being recognized, وہ پہچانا جاتا ہے
 f. Are being recognized, پہچانی جاتی ہیں
 Are recognizing among themselves, آپس میں پہچانتے ہیں
 Mounds, dams for stopping of water, زور کی در
 A handle, دستہ
 Has come down upon, اوسنے چھپت لیا
 Glory, بزرگی
 Power, honour, pride, زور-اقبال
 Has become powerful, وہ غالب ہوا

Victorious, most mighty. **لہایت غالب**
 Most excellent. **لہایت عزت والے**
 Worthiest, most honorable. **لہایت عزت والے**
 Thou makest honourable. **تو عزت دیتا ہے**
 Name of an idol or a tree. **ایک درخت یا بت کا نام**

Ezra. (عزرا) عزرا
 They assisted. **انہوں نے مدد کی**
 You assisted. **تم نے مدد کی**
 We gave help. **ہم نے قوت دی**
 You will help. **تم مدد کرو گے**

Thou hast set aside. **تو نے کنارہ پکڑا**
 He set aside. **اوسنے گوشہ لیا**
 You set aside. **تم نے کنارہ پکڑا**
 Aside, separated from the rest. **سب سے الگ-کنارہ**
 I separate myself from the rest. **میں سب سے الگ ہوتا ہوں**
 You may remain aside. **تم کنارے رہو**
 Were removed to one side. **ایک طرف کئے گئے**
 Are setting aside. **الگ ہوتے ہیں**

Courage. **ہمت**
 He resolved or determined. **اوسنے قصد کیا**
 They determined. **انہوں نے قصد کیا**
 Thou hast determined. **تو نے ارادہ کیا**
 You are resolving. **تم قصد کرتے ہو**

A crowd, a company. **جہنۃ-گورۃ**
 Difficulty. **مشکل**
 Distress. **سختی-تکلیف**

Difficulty. **مشکل**
 Difficult, dire, grievous. **مشکل میں پڑنا**
 To go round by night. **رات کو قاروان گول پھرنا**
 Honey. **شہد**
 It may be, perhaps. **قریب ہے-شاید**

“Will it come to pass that ye”? **نزدیک ہو گے تم**
 Commencement of darkness. **شام کی تاریکی کا شروع**
 An evening, evening time. **شام کا وقت**
 Withdraws. **مٹا پھرتا ہے**

Camels ten months gone with young. **اونٹنوں جو دس مہینہ کی حاملہ ہوں**
 Ten women. **دس عورتیں**
 Ten. **دس**
 Ten men. **دس مرد**
 Twenty. **بیس**
 One-tenth. **دسواں حصہ**
 Ten and ten. **دس دس**

Kindred on the fathers side. **باپ کی جانب کی برادری**
 A staff, rod. **چوب-دستی**
 Staffs, rods. **لاٹھیاں**
 Rebel, disobedient. **شرکس-نافرمان**
 Has disobeyed, rebelled. **نافرمان ہوا**
 I disobeyed. **میں نے نافرمانی کی**
 Rebellion. **نافرمانیاں**
 Disobedience, sin. **نافرمانی گناہ**

You rebelled. **تو نے نافرمانی کی**
 We disobey. **ہم نے نافرمانی کی**
 I will disobey. **میں نے نافرمانی کی**
 He rebels. **وہ نافرمان ہے**

Are disobeying. **نافرمان ہیں**
 Are disobeying. **نافرمان ہیں**
 Grievous, heavy. **گھبراہٹ**
 men from ten to forty. **مردوں کو دس سے چالیس تک کی جماعت**
 Heavy, grievous. **سخت**

Age, time. **زمانہ**
 Leaves and stalks of corn. **گندم کی پتیوں اور تکیوں**
 Harmless, guiltless. **دامنی**
 Saves. **بچاتا ہے**
 Took hold on. **قبضہ کیا**
 They cleaved firmly. **انہوں نے مضبوط پکڑا**
 Hold firmly. **مضبوط پکڑو**
 Preserves one's self. **اپنی جان بچاتا ہے**

An arm, a helper. **بازو**
 They did bite. **انہوں نے کاٹا**
 Bites. **کاٹتا ہے**
 To cut into pieces. **ٹکڑے بنانا**
 Do not. **میں نے نافرمانی کی**
 Rebellion. **نافرمانیاں**
 Disobedience, sin. **نافرمانی گناہ**

اعطيتم You punished. تم نے عذاب کیا
 اعقب Caused to succeed or follow. وہ پیچھے سے لایا
 عقب One who puts off or reverses. پیچھے رکھنے والا
 معقبات Who succeed each other. ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے
 يعقب Delays. دیر کرتا ہے
 عقب Posterity. اولاد
 عقبی Two heels. دو ایڑیاں
 اعقاب Heels. ایڑیاں
 عقبة A place hard of ascent. ایسی جگہ جہاں چڑھنا مشکل ہو
 عقبی End, issue. آخرت
 عقدة A knot, tie. گره
 عقد Knots. گرہیں
 عقد A compact. اقرار
 عقدت f. Has compacted. اوسنے عہد کیا
 عقدتم You compacted. تم نے عہد کیا
 عقول They understood. ارنہوں نے سمجھا
 تعقلون You are understanding. تم بوجھتے ہو
 تعقل We are understanding. ہم سمجھتے ہیں
 يعقل He understands. وہ سمجھتا ہے
 لايعقلون Have no sense, or understanding. عقل نہیں رکھتے ہیں
 عقیم Barren, childless. بانجہ خشک
 علنی Manifest, public, openly. ظاہر-اشکارا
 اعلمتم You manifested. تم نے آشکارا کیا
 اعلنت I manifested. میں نے آشکارا کیا

اعلمتم You manifested. تم نے آشکارا کیا
 اعقب Caused to succeed or follow. وہ پیچھے سے لایا
 عقب One who puts off or reverses. پیچھے رکھنے والا
 معقبات Who succeed each other. ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے
 يعقب Delays. دیر کرتا ہے
 عقب Posterity. اولاد
 عقبی Two heels. دو ایڑیاں
 اعقاب Heels. ایڑیاں
 عقبة A place hard of ascent. ایسی جگہ جہاں چڑھنا مشکل ہو
 عقبی End, issue. آخرت
 عقدة A knot, tie. گره
 عقد Knots. گرہیں
 عقد A compact. اقرار
 عقدت f. Has compacted. اوسنے عہد کیا
 عقدتم You compacted. تم نے عہد کیا
 عقول They understood. ارنہوں نے سمجھا
 تعقلون You are understanding. تم بوجھتے ہو
 تعقل We are understanding. ہم سمجھتے ہیں
 يعقل He understands. وہ سمجھتا ہے
 لايعقلون Have no sense, or understanding. عقل نہیں رکھتے ہیں
 عقیم Barren, childless. بانجہ خشک
 علنی Manifest, public, openly. ظاہر-اشکارا
 اعلمتم You manifested. تم نے آشکارا کیا
 اعلنت I manifested. میں نے آشکارا کیا

اعلمتم You manifested. تم نے آشکارا کیا
 اعقب Caused to succeed or follow. وہ پیچھے سے لایا
 عقب One who puts off or reverses. پیچھے رکھنے والا
 معقبات Who succeed each other. ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے
 يعقب Delays. دیر کرتا ہے
 عقب Posterity. اولاد
 عقبی Two heels. دو ایڑیاں
 اعقاب Heels. ایڑیاں
 عقبة A place hard of ascent. ایسی جگہ جہاں چڑھنا مشکل ہو
 عقبی End, issue. آخرت
 عقدة A knot, tie. گره
 عقد Knots. گرہیں
 عقد A compact. اقرار
 عقدت f. Has compacted. اوسنے عہد کیا
 عقدتم You compacted. تم نے عہد کیا
 عقول They understood. ارنہوں نے سمجھا
 تعقلون You are understanding. تم بوجھتے ہو
 تعقل We are understanding. ہم سمجھتے ہیں
 يعقل He understands. وہ سمجھتا ہے
 لايعقلون Have no sense, or understanding. عقل نہیں رکھتے ہیں
 عقیم Barren, childless. بانجہ خشک
 علنی Manifest, public, openly. ظاہر-اشکارا
 اعلمتم You manifested. تم نے آشکارا کیا
 اعلنت I manifested. میں نے آشکارا کیا

Knows. جانتا ہے

You know, تم جانتے ہو

He teaches, وہ سکھاتا ہے

You are teaching, تم سکھاتے ہو

I know, میں جانتا ہوں

Know thou, تو جان

Know you, تم جانو

Known one, جانا گیا

Was taught, سکھایا گیا

We know, ہم جانتے ہیں

We are instructing, ہم سکھاتے ہیں

He knows, وہ جانتا ہے

Are knowing, جانتے ہیں

He teaches, وہ سکھاتا ہے

Both are teaching, دونوں سکھاتے ہیں

Are teaching, سکھاتے ہیں

Are learning, سیکھتے ہیں

One who knows the secrets, راز جاننے والا

To go high, to be over, اوپر چڑھنا (علی) علو

Has rebelled, اوسنے شرکشی کی

Exalted one, بلند ہونے والا

Exalted, بلند مرتبہ

Very high place, بہت اونچی جگہ

Over or above all, سب سے اوپر

Under the seventh heaven, ساتویں آسمان کے نیچے

Highest place, paradise, سب سے اونچی جگہ-فردوس

Ascending, چڑھاؤ

Conspire, سازش کرنا

Oppose, ٹھکرانا

You are opposing, تم ٹھکراتے ہو

Come on all women, آؤ

They behaved with great insolence, اولادوں نے شرکشی کی

Above, over, highest, اونچا-بلند

A paternal uncle, چچا

With what thing, کس چیز سے

Paternal aunts, بھوپھیاں

A column, a lofty structure, a tent pole, خیمہ کی چوب-ستون

Columns, ستونوں

He did intentionally, اوسنے تصداً کہا

One who proposes, ارادہ کرنے والا

An inhabitation, آبادی

They inhabited, اونہوں نے بسایا

Inhabited place, آباد کی ہوئی جگہ

Inhabits, آباد کرتا ہے

Are inhabiting, آباد کرتے ہیں

Performed the sacred visitation to Mecca, مکہ کی زیارت کی

Age, life, عمر-زندگی

Life, زندگی

An old age, بوڑھاپا

We grant a long life, ہمیں

Will be prolonged in life, پھیلائی جائے گی

Knows, جانتا ہے

You know, تم جانتے ہو

He teaches, وہ سکھاتا ہے

You are teaching, تم سکھاتے ہو

I know, میں جانتا ہوں

Know thou, تو جان

Know you, تم جانو

Known one, جانا گیا

Was taught, سکھایا گیا

We know, ہم جانتے ہیں

We are instructing, ہم سکھاتے ہیں

He knows, وہ جانتا ہے

Are knowing, جانتے ہیں

He teaches, وہ سکھاتا ہے

Both are teaching, دونوں سکھاتے ہیں

Are teaching, سکھاتے ہیں

Are learning, سیکھتے ہیں

One who knows the secrets, راز جاننے والا

To go high, to be over, اوپر چڑھنا (علی) علو

Has rebelled, اوسنے شرکشی کی

Exalted one, بلند ہونے والا

Exalted, بلند مرتبہ

Very high place, بہت اونچی جگہ

Over or above all, سب سے اوپر

Under the seventh heaven, ساتویں آسمان کے نیچے

Highest place, paradise, سب سے اونچی جگہ-فردوس

Ascending, چڑھاؤ

قافلہ A caravan. (قار) عیرو

خداوند عیسیٰ Jesus. (عاسی) عیسی

(عاشی) عیشة } Living, manner of living.
گذران

Whatever is necessary to support life. (عاش) معاش
خورش- ضروریات روزگار

Necessaries of life, victuals. (عاش) معاش
روزہ یا روز مرہ کی ضرورتیں

Poverty. (عال) عیلة
محتاجی

Poor or beggar. (عائل) عائل
فقیر

An eye. (عان) عین
آنکھ

Having large eyes. (عین) عین
بڑی آنکھ والیاں

Two fountain or springs. (عینان) عینان
دو چشمے

Clear-flowing, a fountain. (عین) عین
پہتا پانی- چشمہ

Two eyes. (عینین) عینین
دو آنکھیں

Eyes. (عینون) عینون
آنکھیں

Are keeping in sight. (عینون) عینون
نگاہ رکھتے ہیں

Eyes. (عین) عین
آنکھیں

We were unable (to complete a thing). (عی) عینا
ہم عاجز ہوئے

Gets tired. (عی) عی
تھکتا ہے

خ

Water running away under ground. (عور) عور
زمین کے اندر گہرے پانی کا بہنا

Caves. (عوارات) عوارات
غاریں- گڑھے

Another. (عوار) عوار
دوسرا

Who changes. (عوار) عوار
بدلتے والا

Horses making an hostile ex- (عوار) عوار
ursion. لوگنے والیاں

Changes. (عوار) عوار
بدلتا ہے

Does not change. (عوار) عوار
نہیں بدلتا

Are changing. (عوار) عوار
بدلتے ہیں

Light straw, dried leaves. (عوار) عوار
ہلکی یا سوکھی گھاس

To-morrow, (the day of judgment). (عوار) عوار
روز فردا

Early morning. صبح کا وقت
 The morning. صبح کوئی
 An early meal. سویرے کا کھانا
 Started early in the morning. بہت سویرے چلے
 Thou hast started early in the morning. تو صبح کے وقت چلا
 Come you early in the morning. تم صبح کو آؤ
 Copious, abundant. بکثرت-بہت-بڑا
 He deceived. اوسنے فریب دیا
 A vain hope. فریب دینا
 A deceiver, the Devil. فریب دینے والا
 She deceived or seduced. اوسنے بہکایا
 May not seduce. فریبفتہ نہ کرے
 Deceives. فریب دیتی ہے
 He deceives. وہ فریب دیتا ہے
 Is deceiving. فریب دیتا ہے
 A raven. کوا
 A kind of black grapes. ایک قسم کے سیاہ انگور
 Sun set. آفتاب کا ڈوبنا
 The West. جانبِ پیچھم
 Has set. وہ ڈوبی
 Sets. وہ ڈوبتی ہے
 Belonging to the west, western. پیچھم والی
 The west, setting of the sun. پیچھم-آفتاب ڈوبنے کی جگہ
 Two points in the heavens where the sun sets in summer and winter. سورج کی دو جگہیں سورج اور سردی میں جہاں سورج ڈوبتا ہے
 The western part of the earth. زمین کا مغربی مقام
 A continuous toment. متواتر عناب

Loftly apartments, the seventh Heaven. اونچے اونچے کمرے ساتواں آسمان
 A drought of water taken up in the hand. چلو بھر پانی
 Drank out of the hand. چلو سے پانی پیا
 To drown, dipping. ڈوبنا
 He drowned. وہ ڈوبا
 Were drowned. ڈبائے گئے
 Thou shalt drown. تو ڈبا لگا
 We drowned. ہم نے ڈبایا
 Drowned. ڈبائے ہوئے
 We are drowning. ہم ڈوبتے ہیں
 Drowns. وہ ڈوبتا ہے
 A combatant. غازی-خدا کی راہ میں لڑنے والا
 A spinning, that which is spun. کانا گیا-سورت
 Corruption which flows from the bodies of the damned. مجرہوں کے بدن سے جو پیپ بہے
 He has caused darkness the commencement of night. اوسنے اندھیرا کیا-رات کا شروع
 One who causes darkness, the moon, also the commencement of darkness. چاند-اندھیرا کرنے والا
 Dirt which flows from the bodies of the damned. گندہ گورے کے جسم کا دھروں یا میل
 A place for washing. غسل
 Wash. دھوؤ
 Wash yourselves. تمہارا دھوؤ

We...
 Government...
 One who towers...
 To carry off by force...
 He carried off...
 Something which sticks in throat, anger...
 To be angry...
 Became angry...
 Angry, full of wrath...
 Became angry...
 Was provoked...
 Full of wrath...
 A veil...

چھپایا Hidden. (غل) غل

عداوت-دشمنی Enmity. غل

تم باندھو You bind. غلوا

باندھی گئی Was bound. غلت

بند کی ہوئی Bound, tied up. مغولۃ

چھپاتا یا خیرات کرتا ہے Defrauds, hides. یغفل

خیانت کرتا ہے Defrauds. یغل

خیانت مت کرو Do not defraud. لاغفلوا

Fetters, collars, yokes. آغلان

زنجریں-طوق-جوا

To exceed what is just and proper. حد سے یا حق سے درگذر کرنا (غلا) غلوا

The act of boiling. ابلنا-جوش مارنا (غای) غای

وہ جوش کھائیکا Will get boiled. یغلی

Garden (planted) with thick trees. (غلب) غلب

گھنے درخت کا باغ

طاقت زور Power. غاب

زبردستی کی f. Has forced. غلبت

انہوں نے زور کیا They forced. غلبوا

مغلوب کئے گئے Were defeated. غلبوا

فاتح زبردست Powerful, victorious. غالب

زبردست لوگ Powers. غابون

You will conquer or overcome. تغلبون

تم غالب ہو گے

I will conquer or overcome. اغلب

میں غالب ہونگا

Was overcome or conquered. مغلوب

دبایا گیا

غالب ہونگے Will be victorious یغلبوا

وہ غالب ہوگا He will be victorious. یغلب

مغلوب ہونگے Will be conquered. یغلبون

خول A case. (غلف) غلاف

Cases. خولون غلف

نوجوان لڑکا A boy, a youth (علم) غلام

دو لڑکے Two boys. غلامین

لڑکے Boys. غلمان

He has shut. (door). غلق غلقت

اوسنے (دروازہ) بند کیا

ساخت-گازما Hard, thick. غلظ غلیدظا

تند-بیرحم Rough, severe, strong. غلظ

ساختی کو Press upon. اغلظ

نہایت سخت درد Anguish, affliction. (غم) غم

بدلیاں Clouds. غمام

تاریکی میں پوشیدہ In the dark. غمۃ

The pangs of death. (غمر) غمرات

مرگ کی تکلیف یا درد

A flood of water, senseless. غمرۃ

بھیر-بکری Sheep, goat. (غم) غم

تم اورت لائے You acquired booty. غمتم

لوت کی چیزیں Plunder, spoils مغام

مالدار A rich. غانی

He enriched or made satisfied. اغنی

اوسنے مالدار یا بے پرواہ کیا

f. Has enriched or satisfied. اغنت

اوسنے مالدار یا بے پرواہ کیا

I will stand for. اغنی

میں کام آؤنگا

Was dwelling. تغن

بستی تھی

Stood for or profitted. تغن

نفع پہونچایا کام آیا

Will stand for or will profit. تغنی

کام آویگی

Those who stand in place of another. مغنون

بچانے والے

Making self-sufficient. یغنا

بے نیاز کرتے ہیں

رہتے ہیں Are dwelling. یغنا

کفایت کرتا ہے Does avail. یغنی

بخشنا to forgive.

بخشنے والا who forgives.

بخشنے والے Those who forgive.

ہم بخشتے ہیں We are forgiving.

وہ بخشتا ہے He forgives.

بخشتے ہیں Are forgiving.

بخشش چاہتا ہے Asks pardon.

بخشش چاہتے ہیں Asking pardon.

بخشا جائگا Will be forgiven.

بخشش چاہنے والے Those who ask pardon.

بخشش چاہنی The act of asking forgiveness.

میں بخشش چاہونگا I will ask pardon.

بخشش مانگ Ask pardon.

تو نے معافی چاہی Thou hast asked pardon.

ارنہوں نے بخشش چاہی They asked pardon.

معافی مانگو Ask forgiveness.

معافی مانگ f. Ask pardon.

غفلت-بہول Negligence. (غل) غل

One who is negligent or careless. غل

بے خیال-بے پروا

بے پروائی کوئی Caused to neglect.

بے خیال-بے پروا

Are swalling. *فعل*

Rich. مالدار

A diver. غواص (خاص) غواص

Are diving. غوطہ لگانے ہیں

Inebriation. مرض-سر پھرنا (غال) غول

Error, destruction. مہلکت-گمراہی (غوی) غوی

Has gone astray. گمراہ ہوا

One who is in the wrong. گمراہ

We have gone astray, ہم گمراہ ہوئے

I will cause to *فعل*

We had *فعل*

I will cause to *فعل*

Leads in the wrong. گمراہ کرتا ہے

The bottom of a well. کنوئیں کی تہ (غاب) غیاب

Secret, mystery. چھپی ہوئی چیز یا بات

Mysteria, secrets. پوشیدہ یا چھپی چیزیں

He traduces. وہ عیبیت کرتا ہے

That which is hidden. چھپنے والی *f*. غائبہ

ف

Returned. پھرائی *f*. (فاء) فاءت

Returned or got back. پھرے *فأوا*

To bring under the authority. ماتحت کرنا *آفأ*

Turns itself about. ڈھلتا ہے *يتفدى*

Will incline or return. وہ رجوع کریگی *f*. *تفدى*

Behaving with insolence. با تکلیف-گستاخ *فأهين*

A clamity, that which breaks the verteberæ. کمزیا پیتہ توڑنے والی بلا *فأقرة*

Poverty, a clamity. محتاجی *فقر*

Poors, needy. فقیروں *فقراء*

Very poor, hard up. نہایت محتاج *فقير*

Pure or fast yellow colour. شوخ زرد رنگ *فاقع*

A fruit. پھل *فأكة*

Fruits. میوہ جات *فواكة*

Those who are very joyful: خوش ہونے والے *فأكبرون*

Are jesting. باتیں بناتے *فكهنين*

You are jesting. تم باتیں بناتے ہو *تفكهنون*

Perishable, liable to decay. نیست ہونے والا *فأني*

A mouth. منہ *فأة*
أفواء

To open. کھولنا *فأح*

One who opens. کھولنے والا *فأح*

Those who open or victorious. فاتح یا کھولنے والے *فأحيين*

He revealed. اُس نے ظاہر کیا *فأح*

Was opened. ظاہر کی گئی *f*. *فأحت*

We opened or revealed, or victory. ہم نے ظاہر کیا *فأحنأ*

They opened. ظاہر کیا *فأحوا*

Will be revealed. *فأح*

Open thou. *فأفتح*

مفاتيح } Keys

Was opened. *فأفتحة*

Opens. *يفتح*

Victorious *فأحيين*

Are asking assistance. *يستفتحون*

Asking for assistance. *يستفتحون*

judgment. *يستفتحون*

Weakness. *فترة*

Splitted cleavall. *فتقنا*

فتقنا

فتقنا

فتقنا

فتقنا

فتقنا

بroad ways between two mountains. دو پہاڑوں کے درمیان گہرے راستے

Wickedness. بدکاری۔ گناہ

Wicked persons. بدکار آدمی

Wicked. بدکار

He transgresses. وہ نافرمانی کرتا ہے

Wicked, stubborn. مکر۔ ڈھبھوہ

To act wickedly, the dawn, day-break. گناہ کرنا۔ صبح

Was flowed. بہائی گئی

Flows. جاری ہوتا ہے

Has flowed. بہی

To cause to flow. بہانا

Thou shalt cause to flow well. تو اچھی طرح بہائیگا

Thou shalt flow. تو بہائیگا

We flowed. ہم نے بہایا

Are causing to flow. بہاتے ہیں

Filthy, shameful, or dishonourable conduct. ناپاکی۔ بے حیائی

Abominable crimes. ناشایستہ کلم

An adulterous woman. بدکار عورت

Vain-glorious, a boaster, earthenware. خودستائی۔ بازمی کا پکا ہوا برتن

Mutual boasting. خودستائی

A boaster, vain-glorious. اپنی بڑائی کرنے والا۔ شیخی باز

A ransom. عوض

A fine that which is given to redeem a fault. جرمانہ

He redeemed himself. اوسنے خود عوض دیا

They gave ransom. انہوں نے عوض دیا

She redeemed herself. اوسنے خود عوض دیا

We gave ransom. ہم نے بدلہ دیا

Is giving ransom. قدیہ دیتا ہے

Will be given ransom. قدیہ دئے جائیگے

Sweet water. شیریں یا خوش مزہ پانی

To flee. بھاگنا

You fled. تم بھاگے

I fled. میں بھاگا

She fled. وہ بھاگی

You flee. تم بھاگو

A place of refuge. پناہ کی جگہ

He flees. وہ بھاگتا ہے

Moths. پتنگے

A thing to spread, a carpet. قالین۔ بچھانے کی چیز

An animal for slaughter, subjected, pressed. ذبح کرنے کا جانور

Carpets. بچھونے

We spreaded. ہم نے بچھایا

Separation, distinction. قائلہ۔ جدائی

We divided. ہم نے جدا کیا

They scattered. انہوں نے پراگندہ کیا

Thou hast caused division or separation. تو نے جدائی کی

One who makes distinction. جدا کرنے والا

Divide. جدا کر

To be divided. پھوٹنا یا پھوٹیکا

To divide. جدا کرنا

They scattered. وہ بکھرے

Both are getting separated. دونوں جدا ہوتے ہیں

فَرَّقَ We are making separation. ہم جدا کرتے ہیں

يَفْرِقُونَ They are causing separation. وہ جدائی ڈالتے ہیں

يُفْرَقُ He will get separated. وہ جدا ہو جائیگا

مُفْرَقَةٌ Different, various. الگ الگ جدا جدا

يَتَفَرَّقُونَ Are getting separated. جدا ہوتے ہیں

مُتَفَرِّقُونَ Were divided or separated. جدا جدا کئے گئے

لَمْ يَفْرِقُوا They did not separate. انہوں نے جدائی نہ کی

فَرِيقَةٌ A band of men. آدمیوں کا گروہ

فَرِيقٌ A part, portion, a party of men. حصہ-جماعت

فَرِيقَانِ } Two parties or classes. دو جماعتیں

فَرِيقَيْنِ }

فَرِيقٌ A separate part, heap, hillock. پھانک

فَرْثٌ Fæces, dung. گوبر-علحدہ حصہ

فَرْجٌ An interstice, break, flaw. شکاف-سوراخ

فُرُوجٌ Several flaws, holes. کئی سوراخ یا شکاف

فُرِّجَتْ f. Was splitted, cleaved asunder. وہ چھری گئی

فَرِحَ He was glad. وہ خوش ہوا

فَرِحُوا They were glad. وہ خوش ہوئے

فَرِحَ } Those who are glad. خوش ہونے والے

فَرِحُونَ }

تَفَرَّجٌ Thou art getting charmed. تو فریفتہ ہوتا ہے

تَفَرَّجُوا You are getting charmed. تم فریفتہ ہوتے ہو

يَفْرَحُ He rejoices. وہ خوش ہوتا ہے

يَفْرَحُونَ Are rejoicing. خوش ہوتے ہیں

فَرْدٌ All alone, without companions. تنہا-اکیلا

فَرَادِي Alone, without companions. اکیلے اکیلے

فَرْدُوسٌ Paradise. فردوس

اَوْسَنَ مَقْرَرٌ کیا. He appointed. فرض (فرض)

فَرِيضَةٌ An ordinance of God. خدا کا حکم

تَمَّ نَے مَقْرَرٌ کیا. You fixed. فرضم

هَمَّ نَے مَقْرَرٌ کیا. We fixed. فرضنا

مَقْرُوضٌ Determined or appointed. فرض کیا گیا

فَارِضٌ An old aged (cow). بہت بوڑھی (گائے)

فَرَطٌ To advance or exceed unjustly. بے انصافی یا ظلم کرنا

فَرَطْتُمْ You exceeded beyond the limit. تم حد سے بڑھے

فَرَطْتُ I acted negligently. میں نے کوتاہی کی

فَرَطْنَا We omitted. ہم نے کوتاہی کی

مُفَرِّطُونَ Were extravagantly reproached. بڑی سختی سے ملامت کئے گئے

يَفْرُطُ He advances or exceeds bounds. وہ زیادتی کرتا ہے

يَفْرُطُونَ They are becoming insolent. وہ گستاخ ہوتے ہیں

فَرْعٌ A branch or top of a tree. شاخ یا درخت کی چوٹی

فَرْعُونٌ Pharaoh. مصر کے بادشاہ کا نام

تَوَّ فَرَغٌ ہوا. Thou hast finished. تو فارغ ہوا

فَارِغٌ Empty, void. خالی ہونے والا

أَفْرِغُ I will pour out. میں ڈالوں گا

أَفْرِغْ Pour out thou. تو ڈال

فَرِيٌّ A lie, to invent, forge. جھوٹ

إِفْتِرَاءٌ Feign, forgery, lie. جعل-تہمت-جھوٹ

إِفْتَرَى He forged. اوسنے تہمت باندھی

إِفْتَرَيْتُ I invented a lie. میں نے تہمت باندھی

فَرَسٌ A horse. گھوڑا

فَرَسٌ Forger. فوجی

فَرَسٌ Forger. فوجی

مُفْتَرٍ One who is blamed. ملامت کرنے والا

مُفْتَرِيَاتٌ Forged or invented. جھوٹیاں

يَفْتَرُونَ Are forging or defaming. جھوٹ باندھتے ہیں

يَفْتَرِي He forges. جھوٹ باندھتا ہے

يَفْتَرِي A lie is invented. جھوٹ باندھا گیا ہے

يَفْتَرِينَ They are inventing a lie. جھوٹ باندھتے ہیں

تَفْتَرُونَ You are forging. جھوٹ باندھتے ہو

تَفْتَرِي Thou forget. جھوٹ باندھتا ہے

فَزَعٌ Terror. خوف-گھبراہٹ

فَزِعٌ Was terrified. خوف کیا-گھبرایا

فَزِعٌ Had been freed from fear. خوف یا گھبراہٹ دور کی گئی

فَزِعُوا They were smitten with fear. گھبرائے

فَسَادٌ Corruption. خرابی

فَسَدَتْ f. Was corrupted. تباہ ہوئی

فَسَدَتَا Both were corrupted. دونوں خراب ہوئے

أَفْسَدُوا They corrupted. انہوں نے خراب کیا

مُفْسِدٌ One who despoils. تباہ کرنے والا

مُفْسِدُونَ Those who cause to despoil. تباہ کرنے والے

يَفْسِدُ He despoils. وہ خراب کرتا ہے

يَفْسِدُونَ They are despoiling. وہ خراب کرتے ہیں

أَفْسَدُوا Do not commit violence. جبر نہ کرو

فَسَقٌ Wickedness, disobedience. گنہگاری

فَسَقٌ He disobeyed. وہ نافرمانی کرتا ہے

اور انہوں نے گناہ کیا
 گناہ کرنا
 You are disobeying.
 تم نا فرمانی کرتے ہو
 بدکار، گنہگار
 Those who act wickedly.
 نا فرمانی کرنے والے
 Are acting wickedly.
 نا فرمانی کرتے ہیں
 You fainted or became faint-
 hearted. تم سہمے یا ترے
 جدا کرنا To make division. (فصل)
 وہ الگ ہوا He was separated.
 f. Was separated.
 وہ الگ ہوئی
 We explained distinctly.
 ہم نے اچھی طرح سے بیان کیا
 f. Was separated.
 الگ کی گئی
 خاندان، گھرانہ A family.
 بیان کرنا To explain.
 الگ کرنے والا
 One who makes distinction.
 بیان کیا گیا
 Was explained.
 جدا کی گئیں
 f. Were separated.
 بیان کرتے ہیں
 Are explaining.
 الگ کرتا ہے
 Divides.
 بیان کرتا ہے
 Explains.
 ٹوٹنا The act of being broken. (فصل)
 چاندی Silver. (نص)
 پراگندہ ہوئے
 Were dispersed.
 بھاگ جاویں
 Get dispersed
 ترجیح Preference. (فصل)
 اوسنے ترجیح دی
 He preferred.
 I gave preference.
 میں نے بزرگی یا ترجیح دی

We gave preference.
 ہم نے ترجیح دی
 Were exalted.
 بزرگی دئے گئے
 Excellence, merit, favour.
 بزرگی
 We make plentiful, or increase.
 ہم زیادہ کرتے ہیں
 Creation, religion.
 فطر (فطر) فطرت
 پیدائش-مذہب
 He created.
 اوسنے خلق کیا
 Creator. خالق
 دراز-سوراخ A crack, flaw, fissure. فطور
 That which cleaves, renting asunder.
 پھٹنے والا
 f. Will be cloven or rent.
 پھٹینگی
 f. Was asundered or rent.
 وہ پھٹ گئی
 سنگ دل-تند Harsh, severe. فظ
 کرنا-بنانا To do, make. فعل
 He did. اوسنے کیا
 Was done or made. وہ کیا گیا
 Thou hast done. تو نے کیا
 میں نے کیا
 I did.
 تم نے کیا
 You did.
 انہوں نے کیا
 f. They did.
 ہم نے کیا
 We did.
 انہوں نے کیا
 They did.
 فعل
 One who does well.
 اچھی طرح سے انجام دینے والا
 Do thou. کر تو
 You do. تم کر
 Thou art doing. تو کرتا ہے
 You are doing. تم کرتے ہو
 کیا گیا
 Was done.
 مفعول

We are doing. ہم کرتے ہیں
 He does. وہ کرتا ہے
 They are doing. وہ کرتے ہیں
 Is being done. وہ کیا جاتا ہے
 One who does. کرنے والا
 Those who do. کرنے والے
 The act of freeing of (captives)
 چھڑوانا-خلاص کرنا
 Those who vacillate.
 جدا ہونے والے
 He meditated. اوسنے سوچا
 (فکر) فکر
 Are considering or thinking.
 گمان کرتے ہیں
 Such an one, a certain person.
 وہ شخص یا فلاں شخص
 (فلان) فلان
 Day-break, breaking forth.
 پوپھتا-صبح کا وقت
 (فلق) فلق
 One who causes to break forth.
 چیرنے والا
 Was cloven. وہ پھٹ گیا
 (فلك) فلک
 The orbit of a celestial body.
 آسمان کا حلقہ
 Ship or ships. جہاز
 (فلاح) فلاح
 Happiness, prosperity. نجات
 Those who are prosperous or
 happy. نجات پانے والے
 (فاد) فواد
 The heart. دل
 (فؤاد) فؤاد
 Hearts. کئی دل
 (فاق) فواق
 To make above. اوپر اوتھانا
 Above, over. اوپر
 He became again to him-self, re-
 covered. وہ اپنے ہوش میں آیا
 (فات) فات
 To pass away. گذر جانا
 (فارت) فارت
 Escape, slip, separation.
 بچنا-الگ رہنا-فرق

فَرَجٌ (فراج) A troop or company. جماعت یا لشکر

فَجْوَةٌ (فجوة) A clear open space. کشادہ میدان

أَفْوَاجٌ (افواج) Troops or armies. فوجیں

فَوْرًا (فار) Immediately. فوراً۔ جلدی

فَارٌّ (فار) Was boiled up or over. اوسنے جوش مارا

تَفُورٌ (تفور) Boils up. دہ جوش مارتی ہے

فَوْرٌ (فوز) To obtain one's desire

فَارٌّ (فار) To obtain one's desire

فَائِزُونَ (فائزون) Those who obtain their desires

أَفُوزُ (افوز) I will obtain

مَفَازٌ (مفاز) To attain or reach

مَفَارَةٌ (مفارة) An escape, place of refuge

فُومٌ (فوم) Garlic

ق

قَابٌ (قاب) A space, distance. فاصلہ

قَارِعَةٌ (قارعہ) Adversity, that which strikes

قَاصِدٌ (قاصد) Easy or moderate (journey)

قَصْدٌ (قصد) The right way, the middle path

أَقْصَدُ (اقصد) The middle way

مُقْتَصِدٌ (مقتصد) One who halts between

مُقْتَصِدَةٌ (مقتصدہ) Who keeps to the right path

قَاصِفٌ (قاصف) A heavy gale of wind

قَائِدٌ (قائد) One who obeys

قَائِمَاتٌ (قائمات) Obedient women

قَائِمُونَ (قائمون) Those who obey, or constant in prayer

يَقْبُذُ (يقبذ) Obeys

أَقْبَتِي (اقنتي) Be obedient

قَانِعٌ (قانع) One who is contented, one who asks humbly

مُقْتَضِعِينَ (مقتضعين) Those who lift up the head

قَاهِرٌ (قاهر) The conqueror

قَاهِرُونَ (قاهرون) Conquerors

قَهَّارٌ (قهار) The Omnipotent, the Victorious God

لَا تُقْبِرُوا (لا تقبروا) Do not press or subdue

قَبْرٌ (قبر) A grave, veil, screen

قُبُورٌ (قبور) Graves

مَقَابِرٌ (مقابر) Cemeteries

قَبَسٌ (قبس) Lighted fuel

نَقَعْنَا نَارًا (نقعنا ناراً) We are lighting a fire

يَقْبِضُ (يقبض) To seize, take contract

قَبِضْتُ (قبضت) I seized or contracted

قَبَضْنَا (قبضنا) We seized

مَقْبُوضٌ (مقبوض) Was taken

مَقْبُوضَةٌ (مقبوضه) Was taken

يَقْبِضُ (يقبض) He contracts

يَقْبِضُونَ (يقبضون) They are contracting

يَقْبِضُونَ (يقبضون) Are contrasting

قَبْضَةٌ (قبضة) A handful

قَبْلٌ (قبل) Before, formerly

قَبْلُ (قبل) In presence of

قَبْلٌ (قبل) Towards

قِبْلَةٌ (قبلة) The point in the direction of which prayer must be made to be efficacious

قَبُولٌ (قبول) A favourable reception

أَقْبَلَ (اقبل) He turned towards

أَقْبَلُوا (اقبلوا) They turned towards

أَقْبَلَتْ (اقبلت) Has come forward or before

أَقْبَلْنَا (اقبلنا) We came forward

مُقَابِلِينَ (مقابلين) Those who face one another

مُتَقَابِلِينَ (مقابلين) Those who are proceeding towards

أَقْبِلْ (اقبل) Come thou forward

تَقْبَلُوا (تقبلوا) You will accept

تَقْبَلُ (تقبل) Will be accepted

تَقْبَلُ (تقبل) He accepted

تَقْبِلُ (تقبل) He was accepted

تَقْبِلُ (تقبل)

تَقْبِلُ (تقبل)

Thou shalt kill. تو مار ڈالینگا
 You shall kill. تم مار ڈالو گے
 Thou art fighting. تو لڑائی کرتا ہے
 You will fight. تم لڑائی کرو گے
 The act of slaughtering. حلال کرنا-مار ڈالنا
 We are slaying. ہم مار ڈالتے ہیں
 We are fighting. ہم لڑائی کرتے ہیں
 We shall mortify well. ہم اچھی طرح سے ہلاک کریں گے
 He kills. وہ قتل کرتا ہے
 Are killing. جان سے مارتے ہیں
 f. Are killing. جان سے مارتی ہیں
 He is being killed. وہ مارا جاتا ہے
 They are being killed. وہ مارے گئے ہیں
 دے ہلاک کئے جاتے ہیں
 He fights. وہ لڑائی کرتا ہے
 Are fighting among themselves. آپس میں لڑتے ہیں
 Both are fighting. دونوں لڑتے ہیں
 They cut into pieces. وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں
 Are being cut into pieces. ٹکڑے ٹکڑے کئے جاتے ہیں
 Niggardly (نغر) قنور
 Straited condition or to be in reduced circumstances. محتاجی-تنگی
 گرد و غبار Dust. قنر
 سیاہ-سیاہی Black, blackness. قنر
 To be in reduced circumstances. نہایت محتاجی کی حالت
 Cucumber. (قنار) قنار
 کھیرا یا کتڑی
 To rend. (قد) قنار
 ریزہ ریزہ کرنا پھاڑنا
 Has rent. اوسنے پھاڑا

Was torn. پھاڑا گیا
 Different ways. مختلف راہیں
 The act of striking fire. آگ سلگائی
 To estimate, value. اندازہ کرنا جانچنا
 He estimated. اوسنے اندازہ کیا
 They estimated. اونہوں نے اندازہ کیا
 We were powerful. ہم طاقتور ہوئے
 That which is predestined. تہرا دیا گیا
 He determined beforehand. وسنے پہلے سے مقرر کیا
 They estimated. اونہوں نے اندازہ کیا
 Estimate thou. تو اندازہ کر
 Powerful, able, potent. قابل-زبردست
 Those who are powerful and mighty. وہ جو زبردست ہیں
 You will be able. تم قابل ہو گے
 Estimate, measure. اندازہ
 Was predestined. تہرایا گیا
 We are determining a measure. ہم تنگ کرتے ہیں
 He has power. وہ قدرت رکھتا ہے
 Estimates, measures. اندازہ کرتا ہے
 Will never be able. ہرگز قابل نہوگا
 Having no power or ability. قدرت نہیں رکھتے
 Are having power. قدرت رکھتے ہیں
 Powerful, able to prevail. قدرتی والا

وہ قبول کیا جاتا ہے
 وہ قبول کرنا ہے
 Will not be accepted.
 قبول نہ کی جائیگی
 گواہ-ضامن
 To kill, or slay. ہلاک کرنا
 The act of fighting. باہم لڑنا
 اس نے مار ڈالا
 اونہوں نے قتل کیا
 Thou hast killed. تو نے مار ڈالا
 تم نے قتل کیا
 ہم نے قتل کیا
 وہ مارا گیا
 وہ مارے گئے
 وہ ماری گئی
 تم مارے گئے
 وہ مارے گئے
 تم مارے گئے
 ہم مارے گئے
 ماری گئی
 مردے-لاشیں
 میں ہلاک کرونگا
 تم مار ڈالو
 اوسنے لڑائی کی
 اونہوں نے لڑائی کی

Those who are powerful. **طاقت والے**

Purity, sanctity. **پاک**

The most holy. **بہت پاک**

Was made sacred, holy, sanctified. **پاک کیا گیا**

Was sanctified. **پاک کی گئی**

We declare with sanctity. **ہم پاکیزگی سے بیان کرتے ہیں**

A foot. **پانو**

He sent before. **اوسنے آگے بھیجا**

I sent before. **میں نے آگے بھیجا**

You put forward. **تم نے آگے رکھا**

We sent before. **ہم نے آگے بھیجا**

They sent before. **انہوں نے آگے بھیجا**

Being forward. **آگے لاؤ**

He came forward. **وہ آگے بڑھا**

You will precede. **تم آگے بڑھو گے**

Is preceding. **آگے چلتا ہے**

Are going forward. **آگے جانے ہیں**

One who is preceding. **آگے ہونے والا**

Precedes. **آگے بڑھتا ہے**

Old, ancient. **پرانا لاابتدا**

He cast. **اوسنے پھینکا**

We cast. **ہم نے پھینکا**

We are casting over. **ہم پھینک مارتے ہیں**

Casts or throws. **پھینکتا ہے**

Are casting. **پھینک رہے ہیں**

Are being cast. **پھینکے جاتے ہیں**

To remain quiet. **خاموش رہنا**

Be quiet or cool. **خاموش ہو**

Was firmly fixed. **تھہرایا گیا**

That which remains firmly fixed. **تھہرانے والا**

Glass bottles or slates. **شیشے کی بوتلیں یا تختیاں**

Delight, coolness of the eye. **خوشی آنکھ کی تھنڈک**

Cool thyself. **اپنے تئیں نازہ یا تھنڈا کر**

You confirmed. **تم نے اقراء کیا**

We confirmed. **ہم نے اقراء کیا**

Papers. **کاغذات**

Paper. **کاغذ**

To read. **پڑھنا**

A period of woman's monthly course. **ایام حیض**

He read. **اوسنے پڑھا**

Thou hast read. **تو نے پڑھا**

We read. **ہم نے پڑھا**

Has been read. **وہ پڑھا گیا**

Thou readest. **تو پڑھتا ہے**

Read thou. **تو پڑھ**

You read. **تم پڑھو**

They are reading. **وہ پڑھتے ہیں**

We are reading. **ہم پڑھتے ہیں**

We cause or make to read. **ہم پڑھاتے ہیں**

Drawing nigh. **نزدیک ہونا**

Relationship. **رشتہ داری**

Both have entered. **دونوں نے داخل ہوئے**

We made near. **ہم نے نزدیک کر دیا**

Pious works which are offered unto God. **پاک اعمال جو خدا کے نزدیک کر دیں**

A sacrifice, or gift offered. **ذبح یا نذر چڑھانا**

Kinsfolk. **رشتیدار**

Were drawn nearer. **نزدیک کر لئے گئے**

Near, nigh. **نزدیک**

He may come near. **وہ نزدیک ہو سکتا ہے**

They both came nearer. **دونوں نے نزدیک ہوئے**

They came nigh. **وہ نزدیک ہوئے**

Thou mayest draw near. **تو نزدیک کرے**

Nearest. **نہایت نزدیک**

Kinsfolk, most nearly related. **رشتیدار**

He approached near. **وہ نزدیک ہوا**

f. She approached near. **نزدیک ہوتی**

Desire thou to be near. **نزدیکی تھونڈے**

We are making near. **نزدیک کرتے ہیں**

Are drawing nigh. **نزدیک ہوتے ہیں**

Cause to be nearer. **نزدیک کریں**

A horn, a generation. **بخت**

An intimate companion. **دوست**

Trumpets, horns. **پتیلیں**

Those who are associated with each other. **اپس پاس والے**

Those who are associated with each other. **اپس پاس والے**

ایک دوسرے سے جاکے اور
 دو سینکڑے والا-اسکندر اعظم
 of the two horns, Alexander
 Great.
 wound. زخم
 an ape بندر
 کٹی بندر
 A loan. اودھار
 Gives loan, lends. قرض دینا ہے
 A village, city, town. گاؤں-بستی-شہر
 Villages. بستیاں
 Two cities or villages. دو بستیاں
 The two cities of Mecca. مکہ کے دو شہر
 A noble Arab tribe. (قرش)
 عرب کا ایک شریف قبیلہ ہے
 A balance. (قسطاس)
 انصاف Justice, equity.
 نہایت اچھا-انصاف. More just, to be just.
 انصاف کرو Do-justice.
 انصاف کرو Will do justice.
 Those who do justice انصاف کرنے والا
 An oath. قسم
 میں قسم لہانا ہوں I swear.
 تم نے قسم کھائی You swore.
 They have sworn.
 انہوں نے قسم کھائی
 تم قسم کھاؤ گے You will swear.
 وہ قسم کھاتا ہے He swears.
 Both are swearing.
 دونوں قسم کھاتے ہیں

حصہ کرنا To portion out. قسمة
 ہم نے بانٹا We apportioned. قسما
 حصہ کرنے والے Those who divide. مقسمین
 الفگ الگ کرنے والیاں f. Those who make partition. مقسمات
 حصہ کیا گیا Was divided. مقسوم
 وہ حصہ کرتے ہیں They are dividing. يقسمون
 سختی Hardness. (قسا) قسوة
 سخت دل والی f. Hard-hearted. قاسية
 f. Became hard-hearted قست
 سخت دل ہوئی
 شیر ببر A lion. (قمر) قسورة
 عیسائی پادری (قس) قسيسين
 اوستے بیان کیا He narrated. (قص) قص
 قدم بقدم چلنا The act of following. قصص
 Narratives, stories, histories. قصص
 فسانے یا داستانیں
 ہم نے بیان کر دیا We declared. قصنا
 قدم بقدم چل Follow footsteps. قصى
 ذکر کر Declare, narrate. اقص
 تو ذکر کرتا ہے Thou art mentioning. ناقص
 } We are declaring.
 ہم ذکر کرتے ہیں } ناقص
 وہ ذکر کرتا ہے He relates. بقص
 They are narrating. يقصون
 وہ ذکر کرتے ہیں
 We have broken in pieces. (قصم) قصمنا
 ہمنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا
 فاصلے-حد Distant. (قضا) قصى
 نہایت More remote, further. اقصى
 دور Further. قصى

قلعة-مسل Palace, castle. قصر
 قلعوں-مسلوں Palaces, castles. قصور
 f. Were confined, kept at home. مقصورات
 چھپائی ہوئی
 f. Those who keep in restraint. قاصرات
 تنگ کرنے والیاں
 Are diminishing or cutting short. يقصرون
 کم کرتے ہیں
 Those who cut short (their hair). مقصرون
 بال کترا کر چھوٹے چھوٹے کرانے والے
 Trefoil or clover. (قضب) قضب
 سبز ترکاری
 He commanded. (قضى) قضى
 رسنے حکم کیا
 They commanded. قضا
 اونہوں نے حکم کیا
 Has brought to an end, decreed. قضى
 فیصلہ کیا گیا
 f. Was fulfilled. قضيت
 تمام ہوئی
 Thou hast ended. قضيت
 تو نے ختم کیا
 I ended or accomplished. قضيت
 میں نے تمام کیا
 You commanded. قضيتم
 تم نے حکم کیا
 We completed. قضينا
 ہم نے تمام کیا
 Was decreed or paid up. مقضى
 چکا دیا گیا
 One who decrees, judges. قاض
 حکم کرنے والا
 f. That which comes to an end. قاضية
 آخر ہونے والی
 حکم کرو Do command. اقص
 کر چکو Get fulfilled. اقصوا
 تو حکم کریگا Thou shalt command. تقضى
 حکم کرتا ہے Commands. يقضى
 حکم کرنے ہیں Are commanding. يقصون
 He will be sentenced. يقضى
 وہ فتویٰ دیا جائیگا
 A judge's sentence. (قضا) قضا
 منصف کارنتیجہ-فیصلہ

Molton brass. (فرد) آثار

Sulphur. گندک قطران

Sides. کنارہ

A part. (قطع) قطع

Parts. کترہ

Was out off کیا

He cut off well اسنے خوب کاٹا

Was cut off. درہ ہمازی کنی

You cut. تم نے لٹکا

They cut. انہوں نے لٹکا

We assuared. ہم نے لٹکا

You cut down. تم کاٹو

I will cut down. میں لٹکاؤں گا

You are cutting down. تم کاٹ رہے ہو

He was cut off. وہ لٹکا گیا

They cut down. انہوں نے لٹکا دیا

Was cut down. لٹکا دیا گیا

Will cut down. لٹکاؤں گا

You will cut down. تم لٹکاؤ گے

That which is cut off. وہ جسے کاٹا گیا

That which is cut off. وہ جسے کاٹا گیا

They are moving down. وہ لٹک رہے ہیں

They are moving down. وہ لٹک رہے ہیں

A thin skin which envelopes a face more. ایک نازک جلد جو چہرے کو لٹکاتی ہے

Somehow of grapes. کچھ گڑبھنگ

He sat. وہ بیٹھا

They sat. وہ بیٹھے

Those who sit in company. ہمیشہ

I will sit. میں بیٹھوں گا

Sit down. بیٹھو

Those who sit down. بیٹھنے والے

Thou shalt sit. تو بیٹھے گا

You will sit. تم بیٹھو گے

An act of sitting. بیٹھنا

Sitting places, seats. بیٹھنے کی جگہیں

One who sits. بیٹھنے والا

Those who sit. بیٹھنے والے

Do not sit. مت بیٹھو

We caused to follow or succeed. ہم نے لٹکے

Thou mayest follow. تو لٹکے

An ornament of the neck, wreath or garland. گلے کا زین یا ہار

Two hearts. دو دل

They raised an uproar. انہوں نے جھگڑا

Will be raised up and down. لٹکائی جائے گی

You will be changed or moved about. تم بدلے جاؤ گے

To turn about. لٹکانا

We are coming to turn about. ہم لٹکانے آ رہے ہیں

Turned one. مقلب

Rotates or turns. بقلب

Are returning. بقلبون

They turned about. انہوں نے لٹکا دیا

You turned about. تم لٹکا دیا

Became a little or small. (قل) کم ہوا

Few, little, small. قلیل

Fever, power. قلیان

Little. قوری

A very little, fewer. بہت کم

Descend or carried. لٹکا

He makes few. وہ لٹکا کر رہا ہے

He hated. (قل) لٹکا

A part of the face. (قل) قلم

The name. (قل) چاند

Small. (قل) چھوٹا

A part of the face. (قل) قلم

The name. (قل) چاند

Small. (قل) چھوٹا

A part of the face. (قل) قلم

The name. (قل) چاند

Small. (قل) چھوٹا

A part of the face. (قل) قلم

The name. (قل) چاند

Small. (قل) چھوٹا

A part of the face. (قل) قلم

The name. (قل) چاند

قَالَتْ She said. اُس نے کہا

قَالَتَا Two women said. دو عورتوں نے کہا

قَالَ One who says. کہنے والا

قَالُوا Those who say. کہنے والے

تَقُول He fabricated. وہ بنا لایا

تَقُولُ She says or thou sayest.

تَقُولُونَ You are saying. تم کہتے ہو

أَقُول I am saying. میں کہتا ہوں

أَقُل I did not say. میں نے نہیں کہا

أَقْوَابِل Words or saying. باتیں یا مقولات

نَقُول We are saying. ہم کہتے ہیں

يَقُول He is saying. وہ کہتا ہے

يَقُولَا They both are saying. وہ دونوں کہتے ہیں

يَقُولُونَ They are saying. وہ کہتے ہیں

يُقَال Is being said. کہا جاتا ہے

قِيلَ Was said. کہا گیا

قَائِل (قال) One who sleeps at mid-day. دوپہر کو آرام کرنے والا

مَقِيل Place of repose at noon. دوپہر کے آرام کرنیکی جگہ

قوم (قام) A people. جماعت-گروہ

قِيَام To stand upright. کھڑا ہونا یا اُٹھانا

تَقُومُوا You stand up. تم کھڑے ہو

قَائِم Standing upright. کھڑا ہونے والا

قَائِمُونَ Those who stand. کھڑے ہونے والے

f. قَائِمَات That which stands upright. کھڑے ہونے والی

قَام Stood firm and fast. سیدھا کھڑا ہوا

قَامُوا They stood fast and firm. وہ سیدھے کھڑے ہوئے

إِقَامَةٌ To stand upright. سیدھا کھڑا ہونا

قَوَام Straight. سیدھا

أَقَام He caused to stand still.

اوسنے سیدھا کھڑا کیا

أَقَامُوا They caused to stand upright.

اونہوں نے کھڑا کیا

أَقَمْتَ Thou hast caused to stand firm.

تو نے سیدھا کھڑا کیا

أَقَمْتُمْ You caused to stand upright.

تم نے کھڑا کیا

أَقِم Make thou straight.

تو سیدھا کر

أَقِيمُوا } You will make straight.
أَقِمْنَ } تم سیدھا کر دو گے

أَقْوَمَةٌ More correct. نہایت درست

f. تَقُم Stands up. وہ کھڑی ہوتی ہے

تَقُومُ Thou art standing up.

تو کھڑا ہوتا ہے

تَقُومُونَ You are standing up.

تم کھڑے ہوتے ہو

تَقِيمُوا You will keep or make firm.

تم قائم کر دو گے

مُقِيمٌ One who dwells. رہنے والا

مَقَامٌ A place of standing. کھڑا ہونے کی جگہ

مَقَامَةٌ } To stand up. کھڑا ہونا
مَقَامَةٌ }

مُقِيمِينَ Inhabitants. رہنے والے

نَقِيمٌ We are raising up. ہم کھڑا کرتے ہیں

يَقُومُهُ He raises up. وہ کھڑا ہوتا ہے

يَقُومَانِ Both are rising.

دونوں کھڑے ہوتے ہیں

يَقُومُونَ They are rising. وہ کھڑے ہوتے ہیں

يَقِيمُونَ Are keeping straight up.

قائم رکھتے ہیں

مُقِيمُونَ Those who live in. رہنے والے

يَقِيمَا They both are causing to stand up.

وہ دونوں کھڑا کرتے ہیں

يَقِيمُوا Are putting right or straight.

درست کرتے ہیں

نَاصِبٌ The one who is despaired.
تم ناامید ہو گے
do not be despaired.
ناامید مت ہو
despair. ناامید ہونا ہے
They despaired.
وہ ناامید ہوتے ہیں
(قاس) A cluster of dates.
کھجور کے گچھے
(قاس) Power, strength. طاقت-زور
Those who inhabit in a desert.
جنگل میں رہنے والے
Powers. زور طاقتیں
Powerful. زورآور
دو کمانیں (قاس) Two bows.
بولنا-کہنا (قال) To say, speak.
تو کہہ Speak thou.
تم دونوں کہو You both speak.
تم کہو You speak.
تو کہہ f. Speak thou.
Those all women said.
اون سب عورتوں نے کہا
Thou said. تو نے کہا
مت کہو Do not say.
میں نہیں کہتا I do not say.
تم نے کہا
میں نے کہا I said.
ہم نے کہا
اُس نے کہا
انہوں نے کہا

To put straight.

To raise, the Resurrection.

Firm, upright. مضبوط

Self-subsisting (God). خود قائم رہنے والا

Becomes right. درست ہونے لگتا ہے

ک

Is near at hand or just on the point of. قریب ہے

Was near at hand. قریب تھی

They were near or a little way. وہ نزدیک تھے

I am near. میں قریب ہوں

She is near. وہ قریب ہے

He is near. وہ نزدیک ہے

They are near. وہ نزدیک ہیں

Thou wast near. تو نزدیک تھا

Not near. نزدیک نہیں

A cup. پیالہ (کاس)

Those who obstruct or choke anger. غصہ پی جانے والے

Grieving inwardly and in silence. غم کو دبا رہا ہے۔ تنگ دل ہو رہا ہے

Oppressed with silent sorrow. غصہ بہا۔ غمگین

Those who grin and show their teeth. دانت دکھانا۔ کھیس نکالنا

Perfect, whole, complete. کامل تمام پوری

Two perfect. دو پورے

To be, become, happen. تھا۔ ہے۔ ہوگا

Both were. دونوں تھے

She was. وہ تھی

They both were. وہ دو تھیں

They were. وہ تھے

Be thou. تو ہو

They were. وہ عورتیں تھیں

We are. ہم ہیں

Thou art. تو تھی

I am. میں ہوں

Thou wast. تو تھا

You are. تم ہو

You all women were. تم سب عورتیں تھیں

Shall be, will be. ہوگا

You are. تم ہو

Be thou. تو ہو

I am. میں ہوں

Thou shalt be. تو ہوگا

You both shall be. تم دونوں ہوگے

You shall be. تم ہوگے

A place, house. گھر۔ رہنے کی جگہ

A place purpose, intention. جگہ یا ارادہ

We are remaining. ہم رہتے ہیں

We shall be. ہم ہونگے

He is being. وہ ہوتا ہے

They both be. دونوں ہوں

Do not...
We were...
Though...

A soothsayer (کابھن)
Honour (کابین)
Greatness, pride (کبر)

Old age (کبر)
Greater things or matters (کبر)
He attained greatness (کبر)

Magnify (کبر)
Great, grand (کبر)

Greatness (کبر)

كَلْبٌ One who labours after.

کوشش کرنے والا

كَذِبٌ A lie. جھوٹ

كَذَّابٌ A great liar. بڑا جھوٹا

كَذَّبَ To falsify. جھٹلانا

كَذَبَ He told a lie. اوسنے جھوٹ کہا

كَذَّبَتْ f. She told a lie. وہ جھوٹ بولی

كَذَّبَ } اوسنے جھٹلایا
كَذَّبَتْ } He falsified.

كَذَّبْتُمْ You falsified. تم نے جھٹلایا

كَذَّبْنَا We falsified. ہم نے جھٹلایا

كَذَّبُوا They told a lie. انہوں نے جھوٹ کہا

كَذَّبُوا They were falsified. وہ جھٹلائے گئے

كَذَّبُوا They falsified. انہوں نے جھٹلایا

كَذَّبُوا They were falsified. وہ جھٹلائے گئے

كَذَّبٌ To falsify. جھٹلانا

كَذَّبَانِ You both will falsify.

تم دونوں جھٹلاؤ گے

كَذَّبُونَ You will falsify. تم جھٹلاؤ گے

كَاذِبٌ A liar. جھوٹا

كَاذِبُونَ Liars. جھوٹے

كَاذِبَةٌ f. Liar. جھوٹی

كَاذِبُونَ Are telling a lie. جھوٹ بولتے ہیں

كَاذِبٌ Is falsifying. جھٹلاتا ہے

كَاذِبُونَ They are falsifying. وہ جھٹلاتے ہیں

كَاذِبُونَ Those who falsify. جھٹلانے والے

كَاذِبٌ One who was falsified. جھٹلایا گیا

كَاذِبٌ We are falsifying. ہم جھٹلاتے ہیں

كَلْبٌ One who labours after.

اوسنے لکھ لیا He has written.

تم لکھو گے You will write.

وہ لکھی جائیگی Will be written.

لکھا ہوا Written.

ہم لکھتے ہیں We are writing.

وہ لکھتا ہے He writes.

وہ لکھتے ہیں They are writing.

كِرَامَاتُ الْمَلٰٓئِكَةِ Name of the angels who write man's good and evil deeds.

وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال نیک و بد لکھتے دھتے ہیں

اوسنے چھپایا He concealed.

چھپانا ہے Hides.

چھپاتی ہیں f. Are hiding.

وہ چھپاتے ہیں They are hiding.

مت چھاؤ Do not hide.

كَثْرَةٌ To be much, many, numerous. بہتایت

بہت ہوا Was increased.

وہ بہت ہوئی f. Became abundant.

اوسنے بہت کیا He has multiplied.

بہت-زیادہ Much, many, numerous.

بہت چیزیں Many things.

Abundance, the greater number.

شماریں بہت زیادہ

تو نے بہت کیا Thou hast multiplied.

بہتایت The act of multiplying.

A good thing, sweet.

بہت شیریں عمدہ چیزیں

ریت کا تودہ A heap of sand.

Act of labouring after anything کسی چیز کے لئے مشقت کر کے پہونچنا

كرب (كرب) Grief, distress. كرب

كورة (كورة) A return, a turn of luck. ايكه بار-قسمت کا پھیر

كورتین (كورتین) Two other times, twice again. دو بار

كوس (كوس) A throne. تخت چوکی

كومت (كومت) Thou hast honoured. تو نے عزت دی

كومتنا (كومتنا) We honoured. ہم نے عزت دی

كوترا (كوترا) He honoured. اوسنے عزت دی

كوترا (كوترا) He honoured. اوسنے عزت کی

كوترا (كوترا) Make honourable. درست کو-عزت دار کو

كوترا (كوترا) Thou wast honoured. عزت دی تجھکو

كوترا (كوترا) You are respecting. تم عزت کرتے ہو

كوترا (كوترا) f. Was honoured. عزت کی گئی

كوترا (كوترا) To honor. عزت دینی

كوترا (كوترا) One who honours. عزت دینے والا

كوترا (كوترا) Were honoured. عزت دئے گئے

كوترا (كوترا) Generous, kind. مہربان بخشنے والا

كوترا (كوترا) Honourable, nobles. شریف-معزز-بزرگ لوگ

كوترا (كوترا) Detesting, aversing. زبردستی

كوترا (كوترا) Dislike, disagreeable. ناپسند ناخوش

كوترا (كوترا) He hated. اوسنے نفرت کی

كوترا (كوترا) Rendered hateful. نفرت انگیز کیا

كوترا (كوترا) You disliked. تم نے ناپسند کیا

كوترا (كوترا) They felt disagreeable. وہ زبردستی کیا گیا

كوترا (كوترا) Thou hast compelled. تم نے مجبور کیا

كوترا (كوترا) He was compelled. وہ زبردستی کیا گیا

كوترا (كوترا) You are disliking. تم برا جانتے ہو

كوترا (كوترا) Thou art compelling. تو زور کرتا ہے

كوترا (كوترا) One who hates. بیزار ہونے والا

كوترا (كوترا) Repugnance, hateful, abomination, disagreeable. ناگوار

كوترا (كوترا) He compels. وہ زبردستی کرتا ہے

كوترا (كوترا) They are hating. وہ نفرت کرتے ہیں

كوترا (كوترا) The act of remaining unsold. جنس کا فروخت ہونا

كوترا (كوترا) He gained, acquired. اوسنے کمایا

كوترا (كوترا) Both acquired. دو نے کمایا

كوترا (كوترا) f. Has gained or acquired. اوسنے کمایا

كوترا (كوترا) You gained. تم نے کمایا

كوترا (كوترا) They gained. اونہوں نے کمایا

كوترا (كوترا) He gained. اوسنے کمایا

كوترا (كوترا) They gained. اونہوں نے کمایا

كوترا (كوترا) f. Has gained. اوسنے کمایا

كوترا (كوترا) f. They gained. اونہوں نے کمایا

كوترا (كوترا) f. Does gain. وہ کماتی ہے

كوترا (كوترا) You are gaining. تم کماتے ہو

كوترا (كوترا) Clothing

كوترا (كوترا) We clothed

كوترا (كوترا) Cloth

كوترا (كوترا) We are clothing

كوترا (كوترا) Lazy, sluggish

كوترا (كوترا) f. Will take off a cover

كوترا (كوترا) To uncover

كوترا (كوترا) f. He uncovered

كوترا (كوترا) Thou hast uncovered

كوترا (كوترا) We uncovered

كوترا (كوترا) Uncover thou

كوترا (كوترا) One who removes, takes off or reveals

كوترا (كوترا) Those who take off or reveal

كوترا (كوترا) f. One who removes or reveals

كوترا (كوترا) He takes off, removes or reveals

كوترا (كوترا) Is being uncovered

كوترا (كوترا) Ka'ba

كوترا (كوترا) Two

كوترا (كوترا) Ka'ba

كوترا (كوترا) Ka'ba

كوترا (كوترا) Ka'ba

كوترا (كوترا) Ka'ba

كوترا (كوترا) Ka'ba

کفر Was disbelieved. انکار کیا گیا
 کفرنا We have covered over or expiated. ہم نے دور کیا یا ڈھانپا
 کفر Cover or expiate. ڈھانپ-دور کر
 کفر I am committing ingratitude. میں نا شکر گزاری کرتا ہوں
 کفر He became ungrateful اوسنے ناشکر گزاری کی
 کفر Be thou infidel. تو کافر ہو
 کفر Be you unbeliever. تم منکر ہو
 کفر I will disbelieve. میں انکار کرونگا
 کفر Thou art denying. تو منکر ہوتا ہے
 کفر Infidel women. کافر عورتیں
 کفر You are disbelieving. تم منکر ہوتے ہو
 کفر We will deny. ہم منکر ہونگے
 کفر We will expiate. ہم دور کریںگے
 کفر He denies. وہ منکر ہوتا ہے
 کفر They are denying. وہ منکر ہوتے ہیں
 کفر They will be made ungrateful. وہ ناشکر پے کئے جائیںگے
 کفر He expiates. وہ دور کرتا ہے
 کافر Campbor. کافور
 کفر A portion, a like part. حصہ
 کفر Two portions. دو حصے
 کفر He made answerable اوسنے جواب دہ کیا
 کفر A sponsor, surety, bail. ضامن
 کفر Becomes or stands as surety. پالتے ہیں
 کفر Supporting, nursing. مانند برابر
 کفر Like, equal. (کفر) کافی ہے
 کفر Is enough. کافی ہے
 کفر We are sufficient. ہم بس ہیں

کفایت کرتا ہے Suffices.
 کفایت کرینگا Will not be sufficient.
 کفایت کرینگا
 کفایت کرنے والا One who is sufficient.
 کفایت کرنے والا (کل) All, whole totality universality.
 کفایت کرنے والا
 کفایت کرنے والا A heavy burden. بھاری بوجھ
 کفایت کرنے والا Two men. دو مرد
 کفایت کرنے والا Two women. دو عورتیں
 کفایت کرنے والا Certainly not. ہرگز ایسا نہیں
 کفایت کرنے والا Kindred, a distant relative. دور کے رشتہ دار
 کفایت کرنے والا A word. بات
 کفایت کرنے والا A word, a decree. بات-لفظ یا کلام
 کفایت کرنے والا Words. باتیں
 کفایت کرنے والا He spoke. اسنے بات کی
 کفایت کرنے والا The word was spoken. وہ بات کی گئی
 کفایت کرنے والا I will not speak or utter a word. میں بات نہ کرونگا
 کفایت کرنے والا To speak. بات کرنا
 کفایت کرنے والا Thou art speaking. تو بات کرتا ہے
 کفایت کرنے والا We are speaking. ہم بات کرتے ہیں
 کفایت کرنے والا You will speak. تم باتیں کروگے
 کفایت کرنے والا We are talking. ہم باتیں کرتے ہیں
 کفایت کرنے والا He speaks. وہ بات کرتا ہے
 کفایت کرنے والا Will not talk. کلام نہ کریںگے
 کفایت کرنے والا A dog. ایک کتا
 کفایت کرنے والا Those who train dogs or other animals to hunt. کسی نولہہ یا کتے کو شکار سکھانے والے

كَمْ How, much, how many. (كم) تم
 كَمْ You, your. تمہارا-تم کو (كم) تم
 كَمْ To you both. تم دونوں کو (كم) تم
 كَنْز A treasure. خزانہ
 كَنْز Treasures. خزانے
 كَنْز You buried (a treasure). تم نے گاڑا
 كَنْز You are burying. تم گاڑتے ہو
 كَنْز They are burying. وہ گاڑتے ہیں
 كَنْز (Stars) hiding themselves in the rays of sun. (کنز) کھپنے
 كَنْز نامے جو سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں

كَوْكَب A star. ستارہ
 كَوْكَب f. Was intertwined or folded up. (کار) کورت
 كَوْكَب A cave, cavern. غار
 كَوْكَب One of full age. پوری عمر والا (کارل) کمال
 كَوْكَب A stratagem. حکم اور فریب (کان) کید
 كَوْكَب We taught a trick. ہم نے دارن سیکھایا (کان) کدنا
 كَوْكَب You contrive a stratagem. تم فریب کرو
 كَوْكَب I will devise a plot. میں تدبیر کرونگا (کان) کدنا

كَلْب They measured. کالو
 كَلْب They have measured. کالو
 كَلْب You measured. کلم
 كَلْب So that, lest. کیلا
 كَلْب So that not. لکیلا
 كَلْب Blind (can) (کم) الالک
 كَلْب To behave in an unbecom-
 user to humiliate our self.

ل

ل Verily, surely, certainly. ضرور-خاص
 ل Not, no. نہیں (لا)
 ل I wish, would that. کاشکہ (لات)
 ل Adhesive. چپکنے والا (لذب) لازب
 ل A garment. پوشاک (لبس) لباس
 ل You are obscuring or mystifying. تم ملاتے ہو
 ل Do not obscure or confuse. مت ملاؤ
 ل You are wearing. تم پہنتے ہو
 ل Clothed. پہنے
 ل Are clothed. پہنے ہیں
 ل Are confusing. شبہہ میں ڈالتے ہیں
 ل Two will wear. دو پہنیں گے
 ل We have obscured. ہم نے گھبرا دیا
 ل A coat of mail. زره بکتر
 ل To cover, mystify. دھوکا یا کام کا چھپانا

ل Has remained. وہ رہا (لبث) لبث
 ل I remained. میں رہا
 ل You remained. تم رہے
 ل We delayed. ہم نے دیر کی
 ل They delayed. اونہوں نے دیر کی
 ل Those who remain. رہنے والے
 ل To remain. ٹھہرنا
 ل They remained. وہ ٹھہرے
 ل They are delaying. وہ دیر کرتے ہیں
 ل Much, hence a dense crowd. انبوة العظیم
 ل Milk. دودھ (لبن) لبن
 ل A great body of water. دریا یا کثرت سے پانی
 ل Vast and deep river.

ل They have persisted. لبروا
 ل Flesh. گوشت (لحم) لحم
 ل Pl. flesh. گوشتوں
 ل A vicious pronunciation
 ل Their beard. (لحي) لحيه
 ل One who quarrels. لعد
 ل Very contentious, fond of quarrelling
 ل All, near, with. (لبس) لبس
 ل Near, with. (لبس) لبس
 ل In my opinion.
 ل Agreeable, pleasant
 ل Will find del
 ل Firm

Disengage fully. ^{مکمل طور پر} ^{مکمل طور پر}

Weariness. ^{تھکن} ^{تھکن}

A mingled crowd. ^{مخلط ملت} ^{مخلط ملت}

Joined together, has embraced. ^{ملتے ملتے} ^{ملتے ملتے}

Thickly planted. ^{گنجان ہوئے ہونے} ^{گنجان ہوئے ہونے}

To find. ^{تلاش کرنا پاتا} ^{تلاش کرنا پاتا}

A nickname. ^{خطاب} ^{خطاب}

An Arab Saxe. ^{عرب کے ایک حکیم کا نام} ^{عرب کے ایک حکیم کا نام}

To meet, meet with. ^{ملنا} ^{ملنا}

Both met with. ^{دونوں نے ملاقات کی} ^{دونوں نے ملاقات کی}

They met with. ^{انہوں نے ملاقات کی} ^{انہوں نے ملاقات کی}

You met with. ^{تم نے ملاقات کی} ^{تم نے ملاقات کی}

He sent or cast upon. ^{اُسے اُتارا} ^{اُسے اُتارا}

One who meets with. ^{ملاقات کرنیوالا} ^{ملاقات کرنیوالا}

He met with. ^{وہ ملا} ^{وہ ملا}

They both met with. ^{وہ دونوں ملے} ^{وہ دونوں ملے}

We met with. ^{تم نے ملاقات کی} ^{تم نے ملاقات کی}

A meeting one with another. ^{ملاقات کرنی} ^{ملاقات کرنی}

One who meets. ^{ملنے والا} ^{ملنے والا}

Those who meet. ^{ملنے والے} ^{ملنے والے}

Meets. ^{ملاقات کرتا ہے} ^{ملاقات کرتا ہے}

Are meeting. ^{ملاقات کرتے ہیں} ^{ملاقات کرتے ہیں}

Sends or throws down. ^{اُتارتا ہے} ^{اُتارتا ہے}

Are throwing down. ^{اُتار رہے ہیں} ^{اُتار رہے ہیں}

He threw or cast upon. ^{اُس نے اُتار دیا} ^{اُس نے اُتار دیا}

They poured over. ^{انہوں نے اُتار دیا} ^{انہوں نے اُتار دیا}

I threw upon. ^{میں نے اُتار دیا} ^{میں نے اُتار دیا}

He cast over. ^{اُس نے اُتار دیا} ^{اُس نے اُتار دیا}

You pour. ^{تم اُتارو} ^{تم اُتارو}

Was poured. ^{اُتار دیا گیا} ^{اُتار دیا گیا}

I will shed. ^{میں بہاؤنگا} ^{میں بہاؤنگا}

Shed thou. ^{تو بہا} ^{تو بہا}

Shed you both. ^{تم دونوں ڈالو} ^{تم دونوں ڈالو}

We have shed upon. ^{ہم نے اُتار دیا} ^{ہم نے اُتار دیا}

Thou shalt shed. ^{تو ڈالے گا} ^{تو ڈالے گا}

Thou shalt be poured. ^{تو ڈالا جائیگا} ^{تو ڈالا جائیگا}

You will pour upon. ^{تم ڈالو گے} ^{تم ڈالو گے}

You are sending a message. ^{تم پیغام بھیجتے ہو} ^{تم پیغام بھیجتے ہو}

Those who cast. ^{اُتارنے والے} ^{اُتارنے والے}

Those who pour upon. ^{اُتارنے والے} ^{اُتارنے والے}

We are casting forth. ^{ہم ڈالتے ہیں} ^{ہم ڈالتے ہیں}

Will be poured. ^{ڈالا جائیگا} ^{ڈالا جائیگا}

They will or shall meet. ^{وہ ملاقات کریں گے} ^{وہ ملاقات کریں گے}

He will be met with. ^{وہ ملاقات کیا جائیگا} ^{وہ ملاقات کیا جائیگا}

They will be met with. ^{وہ ملاقات کئے جائیں گے} ^{وہ ملاقات کئے جائیں گے}

They both are meeting with. ^{وہ دونوں ملتے ہیں} ^{وہ دونوں ملتے ہیں}

But, still, nevertheless. ^{لیکن-پر-تو-بھی} ^{لیکن-پر-تو-بھی}

But I. ^{لیکن میں} ^{لیکن میں}

Not, not yet. ^{نہیں-ابھی-تک-نہیں} ^{نہیں-ابھی-تک-نہیں}

Why. ^{کیوں} ^{کیوں}

Altogether, entirely. ^{تمام بالکل} ^{تمام بالکل}

When. ^{جب} ^{جب}

The twinkling of an eye. ^{ایک پلک میں دیکھنا} ^{ایک پلک میں دیکھنا}

Slanderers defamers. ^{عیب چیں اور آنکھ سے اشارہ کرنے والے} ^{عیب چیں اور آنکھ سے اشارہ کرنے والے}

To defame. ^{بذنامہ کرنا انگشت نما کرنا} ^{بذنامہ کرنا انگشت نما کرنا}

۱۰۰۰۰ Use defaming or snuffing.
 اِشَارًا كِتَابًا سَے بَد نَام كَرْتے هِیں
 ۱۰۰۰۰ Do not make signs with your
 انگلیوں سے اِشَارَة مَت كَرُو
 ۱۰۰۰۰ We felt with the hand or
 (لَمَس) لَمَسْنَا هَم نے چھوا
 ۱۰۰۰۰ They touched. اِنھوں نے چھوا
 ۱۰۰۰۰ You touched. تَم نے چھوا
 ۱۰۰۰۰ Seek, search. اَلْتَمِسُوا
 ۱۰۰۰۰ That which is near, hence small
 (لَم) لَمَم كِنَاہ كے نَزْدِیك هُونَا
 ۱۰۰۰۰ By no means. هَرگز نَہِیں
 (لَم) لَمِنْ
 ۱۰۰۰۰ If. اِكْر؟
 ۱۰۰۰۰ Thou became soft. (لَمَس) لَمَسْتَ
 ۱۰۰۰۰ Is becoming soft. f. تَلَمَسُ
 ۱۰۰۰۰ We made soft. هَم نے نَرَم كِیا
 (لَمَس) لَمَسْنَا
 ۱۰۰۰۰ Soft. نَرَم
 ۱۰۰۰۰ A kind of Palm-tree.
 اِیك قِسم كَا كَهَجُور كَا دَرخْت
 ۱۰۰۰۰ If, although, unless.
 (لَوْ) لَوْ
 ۱۰۰۰۰ Why not. كِیوں نَہِیں
 (لَمَّا) لَمَّا
 ۱۰۰۰۰ That which darkens.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ سیَاہ كَرْنِے دَالِی
 ۱۰۰۰۰ A broad table. اِیك چوڑی مِیز یا تَخْتِی
 (لَمَّ) لَمَّ

۱۰۰۰۰ That, which, what, such.
 (مَا) مَا
 ۱۰۰۰۰ Water, liquor.
 (مَا) مَا
 ۱۰۰۰۰ A hundred.
 (مِائَة) مِائَة
 ۱۰۰۰۰ Two hundred.
 (مِائَتَانِ) مِائَتَانِ
 ۱۰۰۰۰ A table set out with food.
 (مَاد) مَاد
 ۱۰۰۰۰ آراستہ دسترخوان

۱۰۰۰۰ The act of flying for shelter.
 (لَوَّ) لَوَّ
 ۱۰۰۰۰ That which renders pregnant
 (لَوَّ) لَوَّ
 ۱۰۰۰۰ Blame, reproof.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Do not blame.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Who blames or reproofs.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ You are blaming or accusing.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Blamed person.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Reprehensible or blamed.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Deserving of blame.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Are blaming one another.
 (لَمَّ) لَمَّ
 ۱۰۰۰۰ Lot.
 (لَوْط) لَوْط
 ۱۰۰۰۰ Pearls, a large pearl.
 (لَوْط) لَوْط
 ۱۰۰۰۰ Colour, external form.
 (لَوْن) لَوْن
 ۱۰۰۰۰ Colours.
 (اَلْوَانِ) اَلْوَانِ
 ۱۰۰۰۰ Flaming fire.
 (لَهَب) لَهَب
 ۱۰۰۰۰ A plaything, amusement.
 (لَهْو) لَهْو
 ۱۰۰۰۰ He occupied me in amu-ement.
 (لَهْو) لَهْو

۱۰۰۰۰ Will move or bend.
 (تَبَدَّد) تَبَدَّد
 ۱۰۰۰۰ Magog.
 (مَاجُوج) مَاجُوج
 ۱۰۰۰۰ Fire free from smoke.
 (مَارج) مَارج
 ۱۰۰۰۰ Name of a rebellious angel.
 (مَارُوت) مَارُوت
 ۱۰۰۰۰ Household stuff.
 (مَاعُون) مَاعُون

۱۰۰۰۰ Hiding or power.
 (يَاوَن) يَاوَن
 ۱۰۰۰۰ Getting nearer.
 (يَلُوْن) يَلُوْن
 ۱۰۰۰۰ Not looked back.
 (نَلُوْن) نَلُوْن
 ۱۰۰۰۰ Night.
 (لَيْل) لَيْل
 ۱۰۰۰۰ One night.
 (لَيْلَة) لَيْلَة
 ۱۰۰۰۰ Nights.
 (لَيْالٍ) لَيْالٍ
 ۱۰۰۰۰ I wish.
 (لَا تَلِيْتُ) لَا تَلِيْتُ
 ۱۰۰۰۰ It was not.
 (لَيْسَ) لَيْسَ
 ۱۰۰۰۰ She is not.
 (لَيْسَتْ) لَيْسَتْ
 ۱۰۰۰۰ They are not.
 (لَيْسُوا) لَيْسُوا
 ۱۰۰۰۰ Thou art not.
 (لَيْسْتَ) لَيْسْتَ
 ۱۰۰۰۰ I am not.
 (لَيْسْتُ) لَيْسْتُ
 ۱۰۰۰۰ You are not.
 (لَيْسْتُمْ) لَيْسْتُمْ
 ۱۰۰۰۰ Lest.
 (لَعَلَّ) لَعَلَّ

۱۰۰۰۰ Riches, wealth.
 (مَال) مَال
 ۱۰۰۰۰ Goods, chattels,
 (مَتَاع) مَتَاع
 ۱۰۰۰۰ Household stuff.
 (مَتَاعَة) مَتَاعَة
 ۱۰۰۰۰ I will bestow.
 (أَمْنَعُ) أَمْنَعُ
 ۱۰۰۰۰ Thou hast.
 (عَمَلْتَ) عَمَلْتَ
 ۱۰۰۰۰ I bestow.
 (أَمْنَعُ) أَمْنَعُ

Magic or fire-worshippers. (مجنوس) **مجنوس**
 آتش پرست
 Glorious, glorified. (مجید) **مجید**
 بزرگوار، شاندار
 Power. (مصل) **مصل**
 قوت
 One who builds a fold for cattle. (مظفر) **مظفر**
 چرواہوں کے لئے خطیرہ بنانے والا
 Was prohibited, hindered. (محظور) **محظور**
 منع یا حرام کیا گیا
 We obliterated. (محقوٹا) **محقوٹا**
 ہم نے مٹایا
 Blots out, abolishes. (محقو) **محقو**
 مٹاتا ہے
 A place or way of escape. (مخاض) **مخاض**
 جگہ یا بچنے کی راہ
 The monthly courses of a woman. (مخاض) **مخاض**
 ماہوار حیض
 Having courses. (مخاض) **مخاض**
 حیض لانا ہے
 Deprived of thorns, purged out. (مخضو) **مخضو**
 کانٹوں سے پاک کیا گیا
 Hunger. (مخض) **مخض**
 بھوک
 To stretch. (مد) **مد**
 کھینچنا
 f. Was stretched. (مدت) **مدت**
 کھینچی گئی
 He stretched forth. (مد) **مد**
 اوسنے کھینچا
 We drew out. (مددنا) **مددنا**
 ہم نے کھینچا
 He draws. (مد) **مد**
 وہ کھینچتا ہے
 They are drawing. (مدون) **مدون**
 وہ کھینچتے ہیں
 We are drawing. (مد) **مد**
 ہم کھینچتے ہیں
 That which was stretched: (مدود) **مدود**
 کھینچا گیا
 f. Widely extended. (مدود) **مدود**
 بہت کھینچی گئی
 Ink. (مدان) **مدان**
 سیاہی
 Help, auxiliary. (مدد) **مدد**
 سہارا، مدد
 He helped. (آمد) **آمد**
 اوسنے مدد کی
 We helped. (آمدنا) **آمدنا**
 ہم نے مدد کی
 One who assists. (مدد) **مدد**
 مدد دینے والا

We are assisting. (مدد) **مدد**
 ہم مدد کرتے ہیں
 You will help me. (مددو) **مددو**
 تم میری مدد کرو گے
 He assists. (مدد) **مدد**
 وہ مدد کرتا ہے
 An abundant of rain. (مدرار) **مدرار**
 شدت کی بارش
 Two gardens of a dark green colour. (مدھامتان) **مدھامتان**
 سبز اور سیاہی مائل دو باغ
 Midian. (مدین) **مدین**
 ملک مدیان
 A city, Medina. (مدینة) **مدینة**
 شہر-مدینہ
 Cities. (مدائن) **مدائن**
 شہروں
 Wavering to and fro. (مذبذب) **مذبذب**
 متروک
 Those who are submissive. (مذعن) **مذعن**
 باور کرنے والے-گردن جھکانے والے
 To pass by. (مر) **مر**
 گذرنا
 He passed by. (مر) **مر**
 وہ گذرا
 Passed by. (مرت) **مرت**
 وہ گذری
 Passes by. (مر) **مر**
 گذرتا ہے
 Are passing by. (مرور) **مرور**
 گذرتے ہیں
 The act of passing away. (مروا) **مروا**
 گذرنا
 Bitter, grave, heavy. (مرور) **مرور**
 سخت-بہت کڑوا
 You are passing by. (مرور) **مرور**
 تم گذرتے ہو
 Will pass away. (مرور) **مرور**
 وہ گذریگی
 That which is transient, powerful. (مرور) **مرور**
 مضبوط
 Once. (مرور) **مرور**
 ایک بار
 Twice. (مرور) **مرور**
 دو بار
 Several times. (مرور) **مرور**
 کئی بار
 Understanding. (مرور) **مرور**
 سمجھ-عقل
 A man. (مر) **مر**
 مرد
 A man. (مر) **مر**
 مرد

Pleasure or delight. (مض) **مض**
 خوشی یا راحت
 You enjoy. (مض) **مض**
 تم مزہ لیتے ہو
 You will be permitted to enjoy. (مض) **مض**
 تم راحت دئے جاؤ گے
 We are giving pleasure. (مض) **مض**
 ہم راحت دیتے ہیں
 Makes to enjoy. (مض) **مض**
 راحت پذیر کرتا ہے
 Will be given pleasure. (مض) **مض**
 خوش کئے جائیں گے
 Are driving delight or pleasure. (مض) **مض**
 فائدہ اٹھاتے ہیں
 One who goes aside or retreats. (مض) **مض**
 گوشہ گیر ہونے والا
 Quarrelling person or those who are at variance with each other. (مض) **مض**
 جھگڑالو شخصیت کرنے والا بدخو
 Those who guess a thing by its outward signs, intelligent. (مض) **مض**
 اکتل سے دریافت کرنے والا
 We will braod immediately. (مض) **مض**
 ہم شتاب داغ دینگے
 When. (مض) **مض**
 کب
 Strong, powerful. (مض) **مض**
 مضبوط قوت والا
 A parable. (مض) **مض**
 کہارت
 Similitude, likeness. (مض) **مض**
 مانند-مطابق
 Parables. (مض) **مض**
 کہارتیں
 Two equivalent. (مض) **مض**
 دو ایک طرح کے یا برابر
 Most distinguished. (مض) **مض**
 نہایت مشہور
 Rest. (مض) **مض**
 بہر
 A place of sitting or assem. (مض) **مض**
 مجلس کا مکان

Two women. **امرأتان**
 Easy of digestion. **سهل الهضم**
 Doubt, **شك** (مري) **مراء**
 Thou disputest. **تو جھگڑتا ہے**
 You are disputing. **تم جھگڑتے ہو** **تماڑوں**
 They doubted. **انہوں نے شک کیا** **تماڑوا**
 You are doubting. **تم شک کرتے ہو** **تماڑوں**
 Are doubting. **شک کرتے ہیں** **تماڑوں**
 Are disputing. **جھگڑتا کرتے ہیں** **تماڑوں**
 Those who doubt. **شک یا گمان کرنے والے** **تماڑوں**
 A doubt. **شک** **مربیۃ**
 A place of refuge. **پناہ کا** **مراءم**
 To be very joyful. **بہت خوش ہونا** **مراءم**
 In a saucy or insolent manner. **آنکڑتے ہوئے** **مراءم**
 Those who rebelled obstinately. **وہ جو خود سے گڑبگڑ** **مراءم**
 Obstinate in rebellion. **مراءم**
 Firmly and compactly united. **خوب جڑا ہوا۔ مطبوطی سے** **مراءم**
 Illness, sickness, infirmity. **کنزوری بیماری** **مراءم**
 I got ill. **میں بیمار ہوا** **مراءم**
 Sick, ill persons. **بیماروں** **مراءم**
 Sick, ill. **بیمار** **مراءم**
 Name of a mountain near Mecca. **مکہ میں ایک پہاڑ کا نام** **مراءم**
 Blessed Virgin Mary. **مبارک پاک کنواری کا نام** **مراءم**
 That which is mixed with wine. **مراہ**

You were torn. **مزلتم**
 We scattered castoreum. **مزلنا**
 Time or place of scattering. **مزل**
 Who wraps himself in a garment. **مزل**
 Cloud. **مزل**
 To touch. **مسی**
 Touched. **مسی**
 That which was touched. **مست**
 Touching, mutual contact. **مماس**
 Touches. **ممس**
 Touching. **تمس**
 You are touching. **تمسوا**
 Fornicating women. **مساءفحات**
 Fornicators. **مساءفحون**
 Poured forth. **مسفوح**
 To wipe, to pass the hand over anything in order to wipe. **مسح**
 The anointed, one who wipes away, Christ. **مسیح**
 You wipe. **امسحوا**
 We transformed or changed into. **مستحنا**
 Twisted fibres of the Palm tree. **مسند**
 A

They were... **مستحنا**
 One was... **مستحنا**
 Those who hold... **مستحنا**
 Poured forth, flowing... **مستحنا**
 Propped up... **مستحنا**
 The left hand, the dam... **مستحنا**
 To walk, go, proceed... **مشی**
 Who proceeds on... **مشی**
 They walked on... **مشی**
 You walk... **امشوا**
 You are walking... **تمشون**
 He goes... **مشی**
 Are going... **مشی**

To nourish a plot. **مکر** کرنا
 They plotted. **مکر** کیا
 We plotted. **مکر** کیا
 Those who lay plots. **مکرین**
 You are plotting. **مکرون**
 He plots. **مکر**
 Are deceiving. **مکرون**
 Given strength. **مکن** (مکن)
 We gave power. **مکن**
 We are strengthening. **مکن**
 He gives power. **مکن**
 Firmly fixed, one whose rank is well established. **مکن**
 Powerful. **مکن**
 A band, nobility, chiefs. **مکن**
 To fill. **ملا**
 Was filled up. **ملا**
 He delayed. **ملا**
 A considerable time. **ملا**
 I will grant a respite. **ملا**
 I continued to cause delay. **ملا**
 We write or dictate. **ملا**
 Is being written. **ملا**
 A religion, a form of worship. **ملا**
 Writes at dictation. **ملا**
 A place of refuge. **ملا**

ملک (ملک) Salt.
ملک (ملک) Power, possession. قبضہ اختیار
ملک One who possesses, a king. اختیار والا بادشاہ
ملک f. Became possessor. مالک ہوئی
ملک You possessed. تم مالک ہوئے
ملکوت } A kingdom, dominion. سلطنت بادشاہی
ملک Kings, lords. بادشاہوں
ملک You will possess. تم مالک ہو گے
ملک Became possessor. مالک ہوتا ہے
ملک Are becoming possessors. مالک ہوتے ہیں
ملک Lord, possessor, an angel who has charge over Hell. وہ فرشتہ جو دوزخ کا داروغہ ہے
ملک Possessors. مختار
ملک A monarch. شاہنشاہ
ملک Possessed, owned, slaves. مال-خلم
ملک (ملک) An angel. فرشتہ
ملک Two angel. دو فرشتے
ملک Angels. فرشتگان
من From, whoever. سے-کوئی
من From, out of this. سے-اس چیز سے
من From, whoever. سے-کس سے
من From, out of. سے-اس سے
من Who. کون
من Manna, manna of the desert. مرنجیبی
من To be gracious towards. احسان کرنا
من He bestowed a favour. وصیے احسان کیا
من To oblige, to bestow favour. احسان کرنا
من Thou art bestowing favour. تو احسان رکھتا ہے
من We are bestowing favour. ہم احسان رکھتے ہیں

Time. وقت۔ زمانہ۔ مدت
 Are bestowing favour. احسان دہتے ہیں

He bestows favour. وہ احسان دہتا ہے
 Do not bestow favour. احسان نہ کرو

An idol worshipped by Pagan Arabs. ایک بت کا نام جو بت پرست عرب پوجتے تھے

A wish, desire. خواہش۔ آرزو

Desires, wishes. آرزویں

You are desiring. تم آرزو کرتے ہو

Are desiring. آرزو کرتے ہیں

You are desiring. تم آرزو کرتے ہو

You desire. تم آرزو کرو

He desired. اوسنے آرزو کی

Sperma genitale. نطفہ

Is being emitted. گرایا جاتا ہے

Creates desire. خواہش پیدا کرتا ہے

To retreat, fly. الگ ہونا بھاگنا

That which is strangled. گلا گھونٹی ہوئی

Prevented, detained. روک رکھا

One who defends. بچانے والی

One who is a great hinderer or obstructor. بڑا اٹکاڑ کرنے والا

One who holds back. نادیبے والا منع کرنے والا

Defend thou. تو بچاؤ

Was forbidden. منع کی گئی

We are forbidding. ہم منع کرتے ہیں

They are forbidding. وہ منع کرتے ہیں

A clear and...
 Pouring forth rain. (ہم) مینہ پڑھ

That which ploughs the waves with a dashing noise. پانی میں چلنے والی

A battle field. میدان لڑائی

A place of destruction. جائے ہلاکت

Causes to perish. ہلاک کرتا ہے

To die. مرنا

Death. موت

Dead, corpse. مردے

Die. مر جاؤ

He died. وہ مرا

He caused to die, اوسنے مارا

Thou hast caused to die. تو نے مارا

I will die. میں مرے گا

I am causing death. میں مارتا ہوں

She dies. وہ مرتی ہے

You will die. تم مرے گے

He causes death. وہ مارتا ہے

He dies. وہ مرتا ہے

They are dying. وہ مرتے ہیں

We are dying. ہم مرتے ہیں

We are causing death. ہم مارتے ہیں

Dead. مردے

Mortal. فانی

That which is dead. مرے ہوئے

Deads. مردے

You will not die. تم نہیں مرے گے

To be moved...
 Fluctuates or...
 Moses. موسیٰ

Was covered...
 Interwoven...
 Was made full, or...
 Was buried alive.

A refuge. پناہ گاہ

A couch, a bed. بچھونا

Earth, a bed, cradle. زمین

I have made agreeable. میں نے پسند کیا

The act of making smooth. تہید

Are spreading. پھیلتے ہیں

Those who hasten...
 Fixed gaze or extended neck. جمائے ہوئے یا سر اٹھا کر دوڑنے والے

Fused brass. پھل

Grant a time, or delay, give...
 Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

The guardian...
 dian, one who...
 Despicable, contemptible. (ہیں) مہین

Whatsoever and when...
 Was poured out. (حال) مہیل

ایک طرف مت جھکو۔ Do not turn aside. لاتمیلوا

پھر جاننا لیرھا ہوا۔ To turn away from (مال) میل

ایک بار جھکنا۔ A single act of turning. میلہ

ن

وہ خبردار۔ He makes acquainted with. یلمبی

پھینک۔ Throw. اُنْبِذْ

خبر دار کیا جاگا۔ Will be informed. یلمباء

ہم نے ارتھایا یا ہلایا۔ We shook or raised. نَنْقَدْنا

تم خبر دو۔ You inform. نَبْذُوا

خلاصی۔ Deliverance. نَجَاةٌ

خبر دے۔ Inform, announce. نَبِیْ

تو نجات دے۔ Save thou, deliver thou. نَجِّ

نبوت۔ Prophecy. نَبْوَةٌ

تو نے خالصی پائی۔ Thou hast attained deliverance. نَجَّوتُ

A Prophet or one who delivers a message. نَبِیٌّ

وہ بچا۔ He escaped. نَجَّی

ہم خبر دیتے ہیں۔ We are informing. نَبْذِیْ

اوسنے نجات دی۔ He saved. نَجَّی

نبی لوگ۔ Prophets. نَبِیُّوْنَ

ہم نے بچایا۔ We saved. نَجَّیْنَا

اوسنے اطلاع کی۔ He informed. نَبَّاتٌ

وہ بچایا گیا۔ He was saved. نَجَّی

میں نے اطلاع دی۔ I informed. نَبَّاتٌ

اوسنے نجات دی۔ He delivered. اَنْجَبِیْ

The germinating thing. نَبَاتٌ

تو نے نجات دی۔ Thou hast delivered. اِنْجَبِیتُ

اوجاتی ہے۔ Produces. تَنْبِذْتُ

ہم نے رہائی دی۔ We have set free or delivered. اَنْجَبِینَا

وہ آگاتا ہے۔ He causes to produce. یَنْبِذْتُ

تو رہائی دیا۔ Thou shalt be saved. تَنْجَبِیْ

Let us make imprecations. نَبْذِیْہُمْ

ہم رہائی دیتے ہیں۔ We are delivering. نَنْجَبِیْ

اوسنے پھینکا۔ He threw. نَبَذَ

میں نے پھینکا۔ He rejected. اِنْذَبَذْتُ

اوسنے پھینکا۔ He rejected. اِنْذَبَذْتُ

میں نے پھینکا۔ They threw. نَبَذُوا

اوسنے پھینکا۔ She threw. نَبَذَتْ

وہ بچائے۔ He might deliver. یَنْجَبِیْ

ہم نے پھینکا۔ We threw. نَبَذْنَا

ایک نجوی۔ A private conference. نَجْوِیٌّ

پھینکا گیا۔ Was thrown. نَبِذَ

ایک نجوی۔ One who is associated in a secret. نَجْوِیٌّ

میں نے پھینکا۔ I threw. نَبَذْتُ

تم نے سرگوشی کی۔ You held private conference. نَجَّیْتُمْ

پھینکا جاگا۔ Will be thrown. یَنْبِذُ

تم کان میں بات کرتے ہو۔ You are discoursing privately. تَنْجَاوُا

تم کان میں۔ You discourse privately. تَنْجَاوِیْتُمْ

دور ہوا۔ gone far away. رُجِعَ

دور ہوتے ہیں۔ are getting far away. رُجِعُوا

آگ۔ Fire. اَنْفَالٌ

روشنی۔ Light. اَنْفَالٌ

وہ شے جو۔ that which gives light. اَنْفَالٌ

روشن کرے۔ روشن کرے۔ اَنْفَالٌ

A forelock, forehead. پیشانی. اَنْفَالٌ

پیشانی۔ Forelocks or foreheads. اَنْفَالٌ

Over and above than what are commanded. اَنْفَالٌ

غنیمتیں۔ Spoils, booty. اَنْفَالٌ

A she-camel. اونٹنی. اَنْفَالٌ

A trumpet, drum. نقارہ. اَنْفَالٌ

پھونکا جاگا۔ To be blown. اَنْفَالٌ

A smallest matter. نہایت خفیف سا معاملہ. اَنْفَالٌ

Those who turn aside. (نکب) اَنْفَالٌ

تیزھے ہونے والے۔ الگ ہونیوالے۔ اَنْفَالٌ

Shoulders, a tract of country. اَنْفَالٌ

کاندھے یا ملک کا کچھ حصہ۔ اَنْفَالٌ

خبر۔ News. اَنْفَالٌ

are seeking information from. اَنْفَالٌ

خبر دو۔ Tell me, or declare to me. اَنْفَالٌ

are seeking information from. اَنْفَالٌ

آگاہی چاہتے ہیں۔ اَنْفَالٌ

ہم آجوں Are holding conference.

مشورہ کرتے ہیں

دو بلند گھاٹیاں (نجد) Two highways.

ناپاک (نجس) Filth, unclean.

تارا (نجم) A star.

ستارے نجوم Stars.

دھواں یا پگھلا ہوا پیتل (نحاس) Smoke or molten brass.

بدبخت (نحس) Unlucky, bad luck.

بدبخت باتیں (نحسات) Unlucky things, or circumstances.

قسم-ذمہ (نحب) A vow.

شہد کی مکھی (نحل) Bee.

مہر (نخلۃ) A free gift, especially a dowry.

ہم (نحن) We.

سڑایا گلا ہوا (نخر) Rotten.

کھجور کے درخت (نخل) Palm-trees or date-palm.

کھجور کا درخت

کھجور کا ایک درخت (نخلۃ) One date-palm.

کھجور کا ایک درخت (نخلۃ) One date-palm.

پکارنا (ندا) To call.

اوسنے بلایا (نادت) She called.

تمنے بلایا (نادیتم) You called.

ہم نے پکارا (نادینا) We called.

پکارنا (تدأ) To call.

اوپہوں نے پکارا (تدأوا) They called.

اوسنے پکارا (تدأ) He called.

اوپہوں نے پکارا (تدأوا) They have called.

پکارا گیا (تدئی) That which was called.

وہ پکارے گئے (تدؤوا) They were called.

مذابی A preacher, one who

proclamation. والا پکارنے والا

پکارتے ہیں (یذرون) Are calling.

پکارے جائیں گے (یذرون) Will be called.

وہ پکارتا ہے (یذبی) He calls.

مجلس (ذبی) A council.

مجلسیں (ذبی) Councils.

توبہ-پشیمانی (ندم) Repentance, penitence.

قسم-عہد-ہمت (نذر) To vow.

میں نے عہد کیا (نذرت) I vowed.

تم نے عہد کیا (نذرت) You vowed.

منتیں (نذور) Vows.

آگاہ کرنا (نذر) To warn.

آگاہ کرنے والے (نذر) Those who warn.

چنانے والا (نذیر) One who warns.

اوسنے چتایا (انذر) He admonished.

تو چتا (انذر) Warn thou.

تو نے آگاہ کیا (انذرت) Thou hast warned.

ہم نے چتایا (انذرتنا) We admonished.

تم قراؤ (انذروا) You warn.

تو قرا (انذر) Warn thou.

قرا نے والا (مذذر) Warner.

چنانے والے (مذذرون) Those who warn.

قرا نے والے (مذذبین) Preachers.

وہ قرا رہا ہے (یذر) He warns.

قرا رہے جاتے ہیں (یذرون) Are being warned.

تو نے نہیں قرایا (لم تذر) Thou hast not warned.

تو نے نہیں قرایا

They are disputing.

They are disputing.

We will draw out.

He plucks out.

You disputed.

You will dispute.

Are disputing.

Disputes.

Incites to evil.

He incited to evil.

He suggests an evil.

Descended.

He sent down.

Was brought down.

One descent.

Was made to descend.

We sent down.

That which was sent down.

I am causing to descend.

Thou send down.

Thou hast sent down.

Was sent down.

You sent down.

We sent down.

gradually.
 وہ درجہ بدرجہ اترے
 تو اترانے کا
 Descended. وہ اترے
 مکان یا گھرنے کی
 جگہیں
 One who sends down. اتارنے والا
 Was sent down. اتارا گیا
 One who sends down. اتارنے والا
 Those who send down. اتارنے والے
 Were sent down. اتارے گئے
 Did not descend. نہ اترے
 We are going down. ہم اترتے ہیں
 Is descending. اترتا ہے
 He sends down. وہ اتارتا ہے
 Consanguinity, or affinity.
 تعلقات رشتہ ناطہ
 Consanguinities. ذاتیں
 We are consigning to a
 gradual punishment. ہم آہستہ آہستہ
 کہہ بیچتے ہیں
 A copy of a book. ایک کتاب
 We are transcribing. ہم لکھتے ہیں
 We are abolishing. ہم مٹاتے ہیں
 He abolishes. وہ مٹاتا ہے
 Name of an idol. ایک بت کا نام ہے
 To destroy, to uproot, to winnow.
 برباد کرنا آڑانا
 Was winnowed. وہ آڑائی گئی
 We will scatter. ہم بکھریں گے

وہ بکھریں گے He will scatter.
 ہم گھسیٹیں گے We will drag. (لفح)
 Victims for sacrifice. (نسک)
 قربانی کی لئے جانور
 Rites and ceremonies. (مناسک)
 A place of sacrifice. (مذسک)
 قربانی کی جگہ
 Progeny, stock. (نسل)
 لڑکے یا اولاد
 Are hastening. (ینسلون)
 جلدی دور نکل
 The putting off a sacred month
 (نساء)
 تورت مقررہ کو
 till a later month.
 قال دینا یا اردھار کرنا
 A staff. (مسائتہ)
 عصا
 To forget, neglect. (نسی)
 بھولنا
 He forgot. (نسی)
 وہ بھولا
 Both forgot. (نسیا)
 دونوں بھولے
 Have forgotten. (نسوا)
 وہ بھولے
 Thou hast forgotten. (نسیت)
 تو بھولا
 You forgot. (نسیتم)
 تم بھولے
 I forgot. (نسیت)
 میں بھولا
 We forgot. (نسینا)
 ہم بھولے
 Was neglected. (نسی)
 وہ بھلایا گیا
 He neglected. (انسى)
 اوسنے بھلایا
 They neglected. (انسوا)
 انہوں نے بھلایا
 We are neglecting. (نسس)
 ہم بھلاتے ہیں
 We are forgetting. (نسی)
 ہم بھولتے ہیں
 He forgets. (ینسی)
 وہ بھولتا ہے
 He causes to neglect. (ینسی)
 وہ بھلاتا ہے
 You are forgetting. (نسون)
 تم بھولتے ہو

وہ بھولتی ہے Forgets.
 Thou art being forgotten.
 تو بھلایا جاتا ہے
 Do not forget.
 مت بھولو
 Women.
 عورتیں
 To produce, raise, create. (نشا)
 پیدا کرنا
 To create. (انشاء)
 بنانا
 He created. (انشا)
 اوسنے پیدا کیا
 You created. (انشاتم)
 تم نے پیدا کیا
 Were created. (انشات)
 بنائی گئیں
 Those who create or produce. (انشون)
 پیدا کرنے والے
 We produce or create. (انشین)
 ہم پیدا کرتے ہیں
 He creates or produces. (ینشعی)
 وہ پیدا کرتا ہے
 Is being created. (ینشأ)
 پیدا کیا جاتا ہے
 To rise by night. (ناشئة)
 رات کا اٹھنا
 To spread abroad. (نشر)
 دور تک پھیلانا
 Was spreaded abroad. (نشرت)
 وہ بکھری گئی
 Dispersed. (نشور)
 پراگندہ
 Resurrection, resuscitation. (النشور)
 قیامت
 Those who spread abroad. (نشرات)
 پراگندہ کرنے والے
 He spreads abroad. (ینشور)
 وہ پراگندہ کرتا ہے
 They are spreading abroad. (ینشرون)
 وہ پراگندہ کرتے ہیں
 He has raised or resuscitated. (انشر)
 اوسنے اوبھارا
 We raised. (انشرنا)
 ہم نے اوبھارا
 Stand up. (انشروا)
 اٹھ کھڑے ہو
 Spread. (انشروا)
 پھیلو

You are spreading. **تَنْشُرُونَ**
 ہم اربھارتے ہیں۔ **نَشْرٌ** We are raising.
 وہ جھڑ گئی۔ **فَ أَنْشَرَتْ** Was dispersed.
 پراگندہ کیا گیا۔ **مَنْشُورٌ** Was dispersed.
 That which spreads itself abroad. **مَنْشُورٌ**
 از خود پراگندہ ہونے والا
 ارتھائے گئے۔ **مَنْشُورِينَ** Were raised.
 کھولے ہوئے۔ **مَنْشُورَةٌ** Unfolded, expanded.
 بد خوئی۔ **نَشْرٌ** Ill conduct. (نشز) نشوز
 ارتھائے ہیں۔ **نَشْرٌ** Are raising.
 اڑتے کہتے ہو۔ **أَنْشُرُوا** Stand up.
 Act of drawing up quickly and **نَشْرٌ** (نشط)
 سہولیت و جلدی سے کہہنا چہتے۔
 ہین
 Those who draw up easily. **فَ نَاشِطَاتٌ**
 کہہنا چہتے ہیں سہولیت سے
 Christian. **نَصْرِي** (نصر) نصری
 کے پیرو
 Christian or people of Nazareth. **نَصْرَانِي**
 شہر کے ناصرہ والے یا عیسائے
 To help, aid, assist. **نَصْرٌ** مدد کرنا
 Helper. **نَصِيرٌ** مددگار
 انہوں نے مدد کی۔ **نَصَرُوا** They helped.
 ہم نے مدد کی۔ **نَصَرْنَا** We helped.
 مددگار۔ **أَنْصَارٌ** Helpers.
 مدد کر۔ **أَنْصُرْ** Help.
 تم مدد کرو۔ **أَنْصُرُوا** You help.
 اوسنے بدلہ لیا۔ **أَنْتَصَرَ** He avenged.
 انہوں نے۔ **أَنْتَصَرُوا** They took vengeance.
 بدلہ لیا

Thou take vengeance. **أَنْتَصِرْ**
 Thou art assisting. **تَنْصُرْ**
 You will aid. **تَنْصُرُوا**
 You will be helped. **تَنْصُرُونَ**
 تم مدد کئے جاو گے
 You are helping one another. **تَنْصُرُونَ**
 تم ایک دوسرے کو مدد کرتے ہو
 You both will take vengeance. **تَنْتَصِرَانِ**
 تم دونوں بدلہ لو گے
 He helps. **يَنْصُرُ**
 وہ مدد کرتا ہے
 They are helping. **يَنْصُرُونَ**
 وہ مدد کرتے ہیں
 They will be helped. **يَنْصُرُونَ**
 وہ مدد کئے جائینگے
 Are seeking help. **يَنْصُرُونَ**
 مدد چاہتے ہیں
 A helper, Protector. **نَاصِرٌ**
 مددگار
 One who was helped. **مَنْصُورٌ**
 مدد کیا گیا
 Those who were helped. **مَنْصُورُونَ**
 مدد کئے گئے
 Those who take vengeance. **مَنْتَصِرُونَ**
 بدلہ لینے والے
 One who is able to defend himself. **مَنْتَصِرٌ**
 جو اپنا بچاؤ کرتا ہے
 A calamity. **نَصَبٌ** (نصب)
 Labour thou or bear hardship. **أَنْصَبْ**
 تو صدمہ مشقت اورتھا
 A stone used by the Pagan Arabs **نُصْبٌ**
 ایک پتھر جسپر بت پرست عرب **نُصْبٌ**
 قربانی کرتے تھے
 Idols. **أَنْصَابٌ** بت
 Was erected. **فَ نُصِبَتْ**
 وہ کھڑی کی گئی

I admonish. **أَنْصَحُ**
 They admonished. **أَنْصَحُوا**
 counsel or advised. **أَنْصَحُ**
 One who advises. **نَاصِحٌ**
 Those who give counsel. **نَاصِحُونَ**
 نصیحت کرنے والے
 I am advising. **أَنْصَحُ**
 True and sincere repentance. **نُصْرٌ**
 سچی توبہ
 The half. **نُصْفٌ** (نصف) ادھا
 Two fountain pouring forth **نُضْحَانٌ** (نضح)
 copiously and continuously. **نُضْحَانٌ**
 دو چشمے بہتے ہوئے
 Well cooked, done enough **فَ نَضِجَتْ** (نضج)
 خوب پکی ہوئی **نَضِجَتْ**
 in cooking. **نَضِجَتْ**
 Brightness, refulgence. **نُضْرَةٌ** تازگی
 تازے ہیں۔ **نَاضِرَةٌ** Are fresh.
 Piled one over another. **نَضِيٌّ** (نضد)
 نہ بتہ کیا ہوا۔ **نَضِيٌّ** Piled up in order.
 Spermatale. **نُضْفَةٌ** (نطف) منی کی بوند
 That which is gored to **نَضِيحَةٌ** (نطح)
 death. **نَضِيحَةٌ** مارے گئی
 To look, behold. **نَظَرَ** دیکھنا
 He looked. **نَظَرَ** اوسنے دیکھا
 To look once or a single glance **نَظْرَةٌ**
 ایک بار دیکھنا
 Look thou. **أَنْظُرْ** تو دیکھ
 You look on or you **أَنْظُرُوا**
 دیکھو

He provided good things. اوسنے نعمت دی
 Benificence. نعمتیں
 Grace, kindness. مہربانی-عنایت
 Happiness, delight. خوشی راحت خوشی کن
 One who bestows benefits abundantly. بہت احسان کرنے والا
 He was gracious. اوسنے احسان کیا
 Thou hast favoured. تونے احسان کیا
 I gave pleasure or reward. میں نے راحت دی یا انعام دیا
 We gave delight. ہم نے راحت دی
 That which gives pleasure. راحت دینے والی
 The women who blow on knots. کمرہ پر دم کرنے والیاں
 To vanish. ضایع یا کم ہونا
 Was vanished, failed. ضایع یا کم ہوا
 Were exhausted. کم ہوئیں
 Gets exhausted. وہ تھوڑ جاتی ہے
 Gets exhausted. وہ تھوڑ جاتا ہے
 One single breath. ایک پھونک
 He blasted, breathed. اوسنے پھونکا
 I breathed. میں نے پھونکا
 We breathed or blasted. ہم نے پھونکا
 Was blasted. پھونکا گیا
 I am breathing. میں پھونکتا ہوں
 You blast. تم پھونکو

Thou art blasting. تو پھونکتا ہے
 Is being blasted. پھونکا جاتا ہے
 A company of men not exceeding ten nor less than three. ادھیونکی جماعت جو تین سے کم نہو اور نہ دس سے زیادہ
 He ran. وہ بھاگا
 To run away. بھاگنا
 A number of men, advance guard. چند آدمیوں کی ایک جماعت جو لڑائی میں آگے جاتی ہے
 They may run. وہ بھاگیں
 You move ahead. تم آگے کوچ کرو
 You go forth. تم کوچ کرو
 Those who take to flight, fugitives. فیڈی-بھاگنے والے
 A soul, life. جان
 Souls. جانیں
 Breathed. دم بہرا
 Long for or aspire after. خواہش کریں
 Has strayed for food by night. وہ رات کو چری
 Carded, teased. دھنپی ہوئی روی
 To be useful. فایده مند ہونا
 That proved profitable. اوسنے فایده پھونچایا
 Has proved useful. مفید ثابت ہوئی
 Profit. فایده
 Will prove useful. وہ فایده دیکھی

to grant one a respite. مہلت دینا
 You may look. تم دیکھو
 You are looking. تم دیکھتے ہو
 Await, expect. انتظار کر
 Await. انتظار کرو
 We are looking or waiting. ہم دیکھتے ہیں
 You are delaying. تم تھیل دیتے ہو
 Were respited. مہلت دئے گئے
 One who looks. دیکھنے والی
 Those who behold. دیکھنے والے
 He looks. وہ دیکھتا ہے
 They will be granted a respite. وہ مہلت دئے جائیں گے
 Waiting. انتظار
 Are waiting. انتظار کرتے ہیں
 Ewe sheep. دنبے
 An ewe sheep. ایک دنبہ
 Drowsiness, sleepiness. غنودگی
 Two shoes. دو جوتیاں
 Cattle. چرواہے
 How excellent. کیسا اچھا
 Grazes, favours. نعمتیں
 Excellent. بہت اچھا

Proves useful. وہ فائدہ دیتا ہے۔ يَنْفَعُ

They prove useful. وہ فائدہ دیتے ہیں۔ يَنْفَعُونَ

Will not benefit. فائدہ نہ دیکے گا۔ لَا يَنْفَعُكَ

A hole. نفق (نفق) نفق

Expenditure or daily bread. نَفَقَةٌ

روز مرہ کی خوراک یا اخراجات

Provision. نَفَقَاتٌ

To spend. انْفَقَ

He spent. انْفَقَ

They spent. انْفَقُوا

Thou spent. انْفَقْتَ

You spent. انْفَقْتُمْ

You spend. انْفَقُوا

You are spending. تَنْفِقُونَ

Hypocrisy. نَفَاقٌ

He spends. يَنْفِقُ

They are spending. يَنْفِقُونَ

A hole, the act of digging

through. نَقَبٌ

They dug. نَقَبُوا

A captain or leader. نَقِيبٌ

To diminish, lessen. نَقَصَ

He diminishes. يَنْقُصُ

They are falling short. يَنْقُصُونَ

Diminish thou. انْقُصْ

Thou may loosen. تَنْقُصْ

You are diminishing. تَنْقُصُونَ

To break or violate. نَقَضَ

تَوَضَّعَ

Has violated. نَقَضَ

They are violating. يَنْقُضُونَ

You are violating. تَنْقُضُوا

He broke. انْقَضَ

Dust rising and floating in the air. نَقَعٌ

گرد و غبار اُڑتا

Marriage. نِكَاحٌ

He gave in marriage. نَكَحَ

You are married. نَكَحْتُمْ

Thou may marry. تَنْكُحْ

You will marry. تَنْكُحُوا

You will give in marriage. تَنْكُحُوا

Marriage. يَنْكُحُ

Must marry. يَنْكُحَنَّ

I will give in marriage. اَنْكُحُ

کر دوں گا

You give in marriage. اَنْكُحُوا

You marry. اِنْكُحُوا

Wishes to marry. يَسْتَنْكُحُ

Are marrying to both. يَسْتَنْكُحَانِ

میں لاتے ہیں

Wretched, niggardly. نَكَدٌ

A punishment. نَكَالٌ

Fetters. اَنْكَالٌ

Unknown, unheard. نَكَرٌ

Iniquitous, horrible. نَكَرٌ

He denied. نَكَرَ

One who denies. نَكِرٌ

You are denying. تَنْكِرُونَ

One who denies. مَنكِرَةٌ

Those who know not. مَنكِرُونَ

Unwarrantable, unlawful. مَنكِرٌ

Unknown. مَنكِرُونَ

He denies. يَنْكِرُ

They disavow. يَنْكِرُونَ

Most disagreeable. اَنْكِرُ

He violated an oath. نَكَثَ

اُسنے عہد توڑا

They violated an oath. نَكَثُوا

عہد توڑا

He breaks (a covenant). يَنْكُثُ

عہد توڑتا ہے

They are violating an oath. يَنْكُثُونَ

وہ عہد توڑتے ہیں

They were turned upside down. نَكَسُوا

وہ اونڈھے آئے گئے

We are turning upside down. نَكَسْنَا

ہم اونڈھا کرتے ہیں

Are turning away. يَنْكَسُونَ

Those who cause to bend down. نَاكِسُوا

To fall back. نَكَصَ

You are retreating (upon your

two heels) تَنْكُصُونَ

اپنے دو تالوں پر ہٹتے ہو

هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ تکلیف دینا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 گدگدے بچھرنے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 چھوڑتی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 چھوڑتی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 انٹس۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 انٹس۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 The tips of the fingers. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہم خوراک دینگے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 We will provide food. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 چغل خور۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Calumny, slanderer. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 میں منع کیا گیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 I was forbidden. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ آپس میں منع کرتے ہیں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 They are interdicting among themselves. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 باز آیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Refrained, abstained. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

باز آئے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Have abstained. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 باز آؤ۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Do abstain. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 باز رہتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Abstains. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 باز رہتے ہیں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Are abstaining. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تم باز نہ آئے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 You did not abstain. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 عقل۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Understanding. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 حضرت نوح۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Noah. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 نیند۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Sleep. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 خواب۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Time or place of sleeping, a dream. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 خواب۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 سوئے والے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Those who sleep. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 مچھلی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A fish. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 کہچور کی گتھلیاں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Date-stones. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 دیں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A day. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

نہر۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A river. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تو جھڑکتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Thou reproachest. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 پہنچنا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 To reach, attain. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ پہنچتی ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Is reaching. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہرگز نہ۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Will never attain. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ پہنچتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He reaches or attains. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ پہنچتے ہیں۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 They are reaching, attaining. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 اوسنے منع کیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He prohibited. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 انہوں نے منع کیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 They forbade. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 منع کئے گئے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Were forbidden. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

لیکن۔ اور۔ بھر۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 And, also, but. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تڑنے والے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Palpitating. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تم نے دوڑایا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 You caused to run. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 بڑی زور کا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A heavy shower of rain. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 سختی۔ عذاب۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Gravity, grievousness. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A heavy blow, chastisement. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 سخت صدمہ۔ گوشہ الی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 اوسنے مضبوط کر کے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He tied firmly. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 عہد و اقرار۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Covenant, treaty. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 اقرار بندھن۔ قید۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A bond, bound, tied. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 نہایت مضبوط۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Very firm. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 مضبوط باندھتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Binds firmly. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وادی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A valley. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

نالے وادی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A valley, channel of a river. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 دیۃ۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A fine to be paid for man-slaughter. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 خون کا عوض دینا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A fin that which is given to redeem the fault. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ترکہ لینے والا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 One who inherits. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ترکہ لینے والے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Those who inherit. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ترکہ پاتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 To be an heir to any one. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 اوسنے ترکہ پایا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He inherited. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 انہوں نے ترکہ پایا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 They inherited. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 اوسنے وارث کیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He made heir. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہم نے وارث کیا۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 We made heir. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 مردے کا مال۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Inheritance. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تم ترکہ پاؤ گے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 You will inherit. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

ہم ترکہ پاؤ گے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 We will inherit. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ ترکہ پاتا ہے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 He inherits. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وہ جو ترکہ۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Those who are inheriting. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہر نیکے بعد کی چھوڑی۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Inheritance. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہوئی جایداد۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 وارث کئے گئے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Were made heir. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 تم وارث۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 You were made heir. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 کئے گئے۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 For ever, lasting. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ہمیشہ پایدار۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 شکستہ بوسیدہ۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 Torn, rented. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 ایک۔ طاق۔ هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔
 A single. هم سعالی ہیں۔ هم سعالی ہیں۔

Defrauds. نہ کم کرنا ہے۔

ایک بڑی Aorta, a large artery. (وَسْ) وَتَابُونَ

شریان-آرطہ

Fell down dead, have fallen. (وَجِبَتْ) وَجِبَتْ
مقل مردہ کے گریزی

اوسنے پایا. He found, or perceived. (وَجَدَ) وَجَدَ

They both found, or perceived. وَجَدَا

آن دونوں نے معلوم کیا یا پایا

They found. پایا. وَجَدُوا

I found. پایا. وَجَدْتُ

We found. پایا. وَجَدْنَا

Thou shalt find. تو پائگا. تَجِدُ

You will find. تم پاؤگے. تَجِدُونَ

You did not find. تم نے نہ پایا. لَمْ تَجِدُوا

اوسنے نہ پایا. He did not perceive. لَمْ يَجِدْ

Thou shalt never find. تو ہوگز نہ پائگا. لَنْ تَجِدَ

اوندھوں نہ نہ پایا. They did not find. لَمْ يَجِدُوا

وہ پاتا ہے. He finds. يَجِدُ

وہ پاتے ہیں. They are finding. يَجِدُونَ

مقدور. Competence, means. وَجْدٌ

Was smitten with fear, afraid. (وَجَلَّ) وَجَلَّتْ

ڈر گئی

One who fears. ڈرنے والی. وَجَلَّةٌ

Those who fear. ڈرنے والے. وَجَلُونَ

Favour, honour, countenance. (وَجْهٌ) وَجْهٌ

عزت-خوشنودی-رضامندی

واسطے-بسبب. Sake. وَجْوَةٌ

Qibla, direction towards Mecca. وَجْهَةٌ

مکہ کی سمت

میں نے منہ کیا. Is faced. وَجَّهَتْ

Honourable. وَجْهَةٌ

He turns or directs his face. يُوْجِهُ

وہ پھرتا یا اپنا منہ اُستطرف کرتا ہے

Alone. (وَحْدًا) وَحْدًا

One man. ایک مرد. وَاحِدٌ

One woman. ایک عورت. وَاحِدَةٌ

One single man. صرف ایک ہی مرد. أَحَدٌ

One single woman. ایک عورت. إِحْدَى

Alone. اکیلا. وَحِيدٌ

Wild beasts. (وَحْشٌ) وَحْشٌ

A revelation, message. (وَحْيٌ) وَحْيٌ

Was inspired, revealed. کیا. أَوْحِيَ

Revelation was sent down. أَوْحِيَ

الہام دیا گیا

I sent revelation. أَوْحَيْتُ

میں نے الہام دیا یا بھیجا

پیغام بھیجتے. Are sending revelation. يُوْحِيُونَ

ہیں

We sent revelation. أَوْحَيْنَا

ہم نے وحی بھیجی

Being inspired. الہام کیا جاتا ہے. يُوْحَى

Revelation is being sent down. يُوْحَى

پیغام بھیجا جاتا ہے

Love, desire, wish. (وَدٌّ) وَدٌّ

اوسنے چاہا. He desired. وَدَّ

Two have formed friendship. دوئے. وَدَّا

دوستی رکھی

They wished. چاہا. وَدَّوْا

اسنے چاہا. He wished. وَدَّتْ

He loves. يُوْهِبُ

He loves. يُوْهِبُ

Are loving. يُوْهِبُونَ

Are loving one another. يُوْهِبُونَ

He gave permission. (وَدَعَ) وَدَعَ

سے اجازت دی

A place of deposit, as womb or grave. (وَدْعٌ) وَدْعٌ

Rain. (وَدَقٌ) وَدَقٌ

Let it go or leave. (وَدَرَ) وَدَرَ

Leave. چھوڑ

You forsake. چھوڑو. تَرُكُوا

Forsakes. ہے. تَرُكُوا

Are forsaking. چھوڑتے ہیں. تَرُكُونَ

Do not forsake. مت چھوڑو. لَا تَرُكُوا

Thou shalt forsake. تو چھوڑیگا. تَرُكُ

Leaves. ہے. تَرُكُ

To let go. چھوڑ دینا. تَرُكُ

We are leaving or forsaking. ہم چھوڑتے ہیں. نَرُكُ

You are leaving. تم چھوڑتے ہو. تَرُكُونَ

Thirsty arriving at water, to drink (وَرَدٌ) وَرَدٌ

پانی تک پہنچنے والے thereof.

Has approached to water. (وَرَدٌ) وَرَدٌ

Arrived at. (وَرَدُوا) وَرَدُوا

To lead one into. (وَرَدُوا) وَرَدُوا

Descended into, arrived (وَرَدُوا) وَرَدُوا

<p>شاہ رگ. Money. ^{شاه رگ}</p>	<p>Gathered. (وسق) ^{سجھنا} وسق وہ پورا ہوا. ^{وہ} Was completed. ^{وہ} اِتْمَقَ</p>	<p>وصیت کرنے والا ^{وصیت کرنے والا} One who bequeaths. ^{وصیت کرنے والا} موصی جو وصیت ^{جو وصیت} That which is bequeathed. ^{جو وصیت} یوصی کیا جاتا ہے</p>
<p>پتے ^{پتے} Leaves. (وزر) چاندی کا سکہ ^{چاندی کا سکہ} Money, silver coin.</p>	<p>To whisper evil, to make ^{تو} evil suggestions, Satan. ^{تو} بُرَائِي سے پہسپہسا نا۔ شیطانی خیالات۔ شیطان</p>	<p>ہم نے وصیت کی ^{ہم نے وصیت کی} We have bequeathed. ^{ہم نے وصیت کی} وَصَيْنَا وصیت کرتا ہے ^{وصیت کرتا ہے} Bequeaths. ^{وصیت کرتا ہے} یوصی</p>
<p>ایک ورق ^{ایک ورق} A single leaf. ^{ایک ورق} ورق پناہ کی جگہ ^{پناہ کی جگہ} A place of refuge. (وزر) ^{پناہ کی جگہ} وزر</p>	<p>پہسپہسا یا ^{پہسپہسا یا} Has whispered evil. ^{پہسپہسا یا} وَسَّوَسَ بُری خیال ^{بُری خیال} Susgets evil things. ^{بُری خیال} یوسوس</p>	<p>وصیت کرتی ہے ^{وصیت کرتی ہے} Are bequeathing. ^{وصیت کرتی ہے} یوصین دھلیز ^{دھلیز} A threshold. (وصد) ^{دھلیز} وَصِيدٌ</p>
<p>بوجھ ^{بوجھ} A burden, load. ^{بوجھ} وزر One who carry a load, a counsellor. ^{One who carry a load, a counsellor.} وزور</p>	<p>فears of evil suggestion. ^{فears of evil suggestion.} تووسوس دھم کرتی ہے ^{دھم کرتی ہے}</p>	<p>اوسنے دکھا. (وضع) ^{اوسنے دکھا.} وضع رکھا گیا ^{رکھا گیا} Was laid down. ^{رکھا گیا} وَضِعَ</p>
<p>صلاح کار۔ بوجھ اور ٹھانے والا مشیر ^{صلاح کار۔ بوجھ اور ٹھانے والا مشیر}</p>	<p>بہت نزدیکی ^{بہت نزدیکی} Close proximity. (واسل) ^{بہت نزدیکی} وَسِيْلَةٌ</p>	<p>رکھا گیا ^{رکھا گیا} She brought forth a child. ^{رکھا گیا} وَضَعَتْ وہ جنی ^{وہ جنی} I brought forth a child. ^{وہ جنی} وَضَعْتُ</p>
<p>بوجھ ^{بوجھ} Loads. ^{بوجھ} أوزار وہ اٹھاتی ہے ^{وہ اٹھاتی ہے} Bearing, carrying. ^{وہ اٹھاتی ہے} تزر</p>	<p>Act of attributing. (وصف) ^{Act of attributing.} وصف کرتا ^{کرتا} Is attributing, are asserting. ^{کرتا} تَصِفُ</p>	<p>ہم نے رکھا ^{ہم نے رکھا} We placed. ^{ہم نے رکھا} وَضَعْنَا رکھتے یا اونٹ بہگاتے ^{رکھتے یا اونٹ بہگاتے} Would have driven camels or horses. ^{رکھتے یا اونٹ بہگاتے} أَوْضَعُوا</p>
<p>بوجھ اٹھانے والے ^{بوجھ اٹھانے والے} Those who are bearing or carrying a burden. ^{بوجھ اٹھانے والے} یزرون</p>	<p>تعارف یا صفت ^{تعارف یا صفت} Act of attributing. (وصف) ^{تعارف یا صفت} وصف کرتا ^{کرتا} Are attributing or asserting. ^{کرتا} يَصِفُونَ</p>	<p>رکھی گئی ^{رکھی گئی} Was laid. ^{رکھی گئی} وَضِعْتُ رکھنے کی جگہیں ^{رکھنے کی جگہیں} Places for laying. ^{رکھنے کی جگہیں} مَوَاضِعُ</p>
<p>تولنا ^{تولنا} To weigh. (وزن) ^{تولنا} وزن اونہوں نے تول ^{اونہوں نے تول} They have weighed. ^{اونہوں نے تول} وَزَنُوا</p>	<p>مدح کرنے یا سزا دینے ^{مدح کرنے یا سزا دینے} ہیں ^{مدح کرنے یا سزا دینے} ہیں ہم نے ملایا ^{ہم نے ملایا} We joined. (وصل) ^{ہم نے ملایا} وَصَلْنَا</p>	<p>رکھتا ہے ^{رکھتا ہے} Lays. ^{رکھتا ہے} يَضَعُ رکھتی ہیں ^{رکھتی ہیں} Are laying. ^{رکھتی ہیں} يَضَعْنَ</p>
<p>درمیان میں ^{درمیان میں} Middle. (وسط) ^{درمیان میں} وسط Pass through the midst of. ^{Pass through the midst of.} وَسَطٌ</p>	<p>ملایا جاتا ہے ^{ملایا جاتا ہے} Is being joined. ^{ملایا جاتا ہے} يُوَصَّلُ A she-camel or ewe. ^{A she-camel or ewe.} وَصِيْلَةٌ</p>	<p>رکھتی ہیں ^{رکھتی ہیں} Are laying. ^{رکھتی ہیں} يَضَعْنَ روندنا ^{روندنا} To tread, trample on. (وطي) ^{روندنا} وَطَى</p>
<p>درمیان سے گزریں ^{درمیان سے گزریں}</p>	<p>آگنی یا بہیڑ ^{آگنی یا بہیڑ} ^{آگنی یا بہیڑ} آتني يا بهيڑ جوڑتے ہیں ^{جوڑتے ہیں} Are joining. ^{جوڑتے ہیں} يَصْلُونَ</p>	<p>جگہ ^{جگہ} A step. ^{جگہ} مَوْطِئًا پورا یا ہموار کرتے ^{پورا یا ہموار کرتے} Are rendering equal. ^{پورا یا ہموار کرتے} يُوَاطِّئُوا</p>
<p>درمیان ^{درمیان} The middle. ^{درمیان} وَسْطَى</p>	<p>اوسنے وصیت کی ^{اوسنے وصیت کی} He bequeathed. ^{اوسنے وصیت کی} وَصَّى</p>	<p>ہیں ^{ہیں} Are treading or trampling. ^{ہیں} يَطْئُونَ روندتے ہیں ^{روندتے ہیں}</p>
<p>بیچ والا یا نہایت قابل ^{بیچ والا یا نہایت قابل}</p>	<p>A testamentary disposition of a ^{A testamentary disposition of a} property. ^{A testamentary disposition of a} مال کی وصیت کی اوسنے تاکید کی ^{اوسنے تاکید کی} He commanded. ^{اوسنے تاکید کی} أَوْصَى</p>	<p>وہ شے جسکی ^{وہ شے جسکی} Necessary thing. (وطر) ^{وہ شے جسکی} وَطْرٌ مانگ بہت ہو۔ ضروری چیزیں ^{مانگ بہت ہو۔ ضروری چیزیں}</p>
<p>گنجائش۔ ایقت. (وسع) ^{گنجائش۔ ایقت.} وَسِعَ کشادہ ہوا ^{کشادہ ہوا} Was extended. ^{کشادہ ہوا} وَسِعَ تو نے پالیا ^{تو نے پالیا} Thou hast comprehended. ^{تو نے پالیا} وَسَعْتَ وہ فراخ ہوئی ^{وہ فراخ ہوئی} Was extended. ^{وہ فراخ ہوئی} وَسِعَتْ</p>	<p>تم وصیت کرتے ہو ^{تم وصیت کرتے ہو} You are bequeathing. ^{تم وصیت کرتے ہو} تَوْصُونَ وصیت کرنا ^{وصیت کرنا} To bequeath. ^{وصیت کرنا} تَوَصَّيْتُ</p>	<p>رتن تھیلا صندوق ^{رتن تھیلا صندوق} A vessel, bag, box. (وعى) ^{رتن تھیلا صندوق} وَعَى</p>

اقرار (وعد) Promise.

اسنے اقرار کیا۔ He promised وعد

تو نے اقرار کیا۔ Thou hast promised وعدت

میں نے اقرار کیا۔ I promised وعدت

ہم نے اقرار دیا۔ We promised وعدنا

ہم سے اقرار ہوا۔ We are promised وعدنا

انہوں نے قول دیا۔ They promised وعدوا

خوف دلانا۔ Threatening وعید

تم ڈرائے ہو۔ You are threatening نوعدون

تم سے اقرار ہوتا ہے۔ You are promised نوعدون

قول دئے جاتے۔ Are being promised نوعدون

مت ڈراؤ۔ Do not threaten لاوعدا

Appointed or promised place. مقرر کی ہوئی جگہ

اقرار۔ Promise موعدة

قول دیا گیا یا۔ Is promised, predicted موعود
وقت سے پہلے خبر دیا گیا

اقرار کرتا ہے۔ Promises يعد

Thou hast admonished. وعظا

تو نے نصیحت کی

You are being admonished. نوعظرون

تم نصیحت دئے جاتے ہو

He advises. وعظا

آگاہی۔ نصیحت۔ Warning, advice. موعظة

آگاہ کیا جاتا۔ Is being admonished. نوعظرون

Are being admonished. نوعظرون

آگاہی دئے جاتے ہیں

Accomplishment. (رفق) وفاق

Success, rehabilitation. توفیق

Suiting to one's mind. موافقت
کرتا ہے

Representative into the presence
of Royalty. شاہی حضوری میں حاضر ہونا وفد

He completed. (رفی) ورفی
اوسنے تمام کیا

Thou shalt be given in full. تو پورا
دیا جائگا

Are fulfilling. پورا کرتے ہیں

Will be given in full. پورا دئے جائنگے

Is giving in full. پورا دیتا ہے

Is being given in full. پورا دیا جاتا ہے

Are causing death. مارتے ہیں

Are being made dead. مارے جاتے ہیں

Give in full measure. پورا دے

Complete, fulfill. پورا کرو

Fulfilled, completed. پورا کیا

Those who give full measures.
پورا پیمانہ دینے والے

We will give in full. ہم پورا دینگے

Was given in full. پورا دی گئی

Are receiving in full. پورا لیتے ہیں

He caused to die. اوسنے جان سے مارا

Thou hast caused death. تو نے مارا ہے

They are causing death. وہ مارتے ہیں

They are taking away the soul. وہ جان لے جاتے ہیں

Takes in full. پورا لیتا ہے

We will... We will

Thou hast... Thou hast

Kindness and long... Kindness and long

Deafness. بھراپن

A heavy burden. بھاری بوجھ

To overspread. (وقب) وقب

Time. (وقت) وقت

That of which the time is... That of which the time is

Fallen. (رفق) رقا

A coming to pass. ہونے والی بات

Fell down. (رفق) رقا

The time or place of falling. گرنے کا

Those who fall. گرنے والے

Those who fall. گرنے والے

Causing. باعث ہوتا ہے

Were made to stand. (وقف) وقفوا

You wait or stand. (وقف) وقفوا

Those who were made to stand

Fuel. (وقد) وقود

Was kindled. (وقد) وقود

Is being lighted. (وقد) وقود

Are lighting. (وقد) وقود

وہ توکل کرنے He may trust. **تَوَكَّلْ**

بھروسا کرتے ہیں Are trusting. **يَتَوَكَّلُونَ**

ہم بھروسا کرتے ہیں We are trusting. **نَتَوَكَّلُ**

بھروسا کرنے والے Those who trust. **مَتَوَكِّلُونَ**

اوسنے منہ پھیرا He turned his face. **وَلَّى**

اپنے پیٹھے پھیری **وَلَّوْا** They turned their back.

اونہوں نے پیٹھے پھیری

تو بھاگا Thou hast ran. **وَلَّيْتَ**

تم بھاگے You ran. **وَلَّيْتُمْ**

تو پھر Turn thou. **وَلَّ**

تم پھرو You turn. **وَلَّوْا**

وہ پھرے They turned. **وَلَّوْا**

تم کنارے ہو You retreat. **وَلَّوْا**

تو کنارہ ہو Retreat thou. **وَلَّ**

تم اٹھے پھراے جاوگے You shall be turned back. **وَلَّوْا**

برداشت کیا اوتھایا Taken upon. **تَوَلَّى**

تم خود مختار ہوے You became self-willed. **تَوَلَّى**

صاحب ساتھی A lord, companion. **أَوْلَى**

نہایت لائق یا بہتر More worthy. **أَوْلَى**

مُحْسِن خیرگیر مددگار Patrons, helpers. **أَوْلَا**

صاحب کرامت Benefactor, protector. **أَوْلِيَاءُ**

نگہبان محافظ

منہ پھرنے والا One who turns his face. **مُؤَلِّي**

ہم پھرتے ہیں We are turning. **نُؤَلِّي**

پیٹھے پھرتا ہے Turns his back. **يُؤَلِّي**

پیٹھے پھرتے ہیں Are turning their back. **يُؤَلِّونَ**

چکری دوست (ولج) An intimate friend. **وَالِدٌ**

داخل ہوتا ہے Enters. **يَدْخُلُ**

داخل کیا کرتا ہے Is entering or introduces. **يُدْخِلُ**

داخل کراتا ہے Causes to enter. **يُدْخِلُهُ**

بچہ-بیٹا A child, a son. **وَالِدٌ**

جنا Was brought forth or begot. **وُلِدَ**

جنایا گیا To be born or begotten. **وُلِدَ**

اولاد Children. **وَالِدَانٌ**

میں جنایا گیا I am or was born. **وُلِدْتُ**

اونہوں نے جنا They gave birth. **وَلَدُوا**

باپ A father. **وَالِدٌ**

ماین Mothers. **وَالِدَاتُ**

مان باپ Parents. **وَالِدَيْنِ**

جنتا ہے Giving birth or begets. **يُلِدُ**

جنتے ہیں Are begetting. **يُلِدُوا**

نہیں جنایا گیا Was not born. **لَمْ يُولَدْ**

بچہ-جوان A child, youth. **وَالِدٌ**

چھپایا گیا (وری) That which was hidden. **وَرِيٌّ**

میں چھپاتا ہوں I am hiding. **أُورِي**

وہ چھپاتا ہے He hides. **يُؤْوِي**

پہلے آگے Before, beyond. **وَرَاءَ**

چھپ گئی Got hidden. **تَوَارَتْ**

وہ چھپاتا ہے He hides. **يُؤْوِي**

انگ جھاننے والے Those who strike fire. **مُؤْوِيَاتُ**

لڑائیوں نے سلاہا

تو اسکا

اوسنے بچایا

بچایا گیا

پرهیز گار

وہ سب ڈریں

وہ ڈرے

تو پرهیز کریگا

تو ڈر

پرهیز گار

تم ڈریں

تو ڈرنا

وہ پرهیز کرتے ہیں

خوف خدا

وہ پرهیز کرتا ہے

He abstains.

اوسنے گھونسا مارا

ولی یا وکیل

ہم نے وکیل کیا

خبر گیر

میں نے بھروسا کیا

ہم نے بھروسا کیا

تو بھروسا کر

تم بھروسا کرو

You are striking fire. تم آگ سلگاتے ہو۔
 A free and liberal giver. (رہب) وہاب
 دریادلی سے دینے والا
 He bestowed. اوسنے بخشا
 Has bestowed. f. وہبت
 We bestowed. وہبنا
 Is bestowing. یہب
 میں بخشتا ہوں۔ اہب
 I am bestowing.
 Bestow. ہب
 روشن ہو کر جلنا۔ (رہج) وہجا

Laggid, remiss. (رہن) وہن
 Has become weak. کمزور یا سست ہوا۔
 They became weak. وہنوا
 وہ سست یا کمزور ہوئے
 Weakest. (رہن) اوہن
 You fainted or became weak. تہنوا
 تم غش میں آئے
 Do not faint. لاتہنوا
 مت غش کھاؤ
 One who makes weak. مہن
 کمزور یا سست کرنے والا

(رہی) وہیکان
 A great misfortune. (رہل) وہیل
 nishment.
 Alas, shame. (رہی) وہیلی
 Sleep, slumber, drowsiness. (رہس) سدہ
 Confirmation, ratification. (رکد) توکیدہ
 (رہو) وہوار

ھ

Her, it, its. (ھا) ھا
 You take or hold. ھاوم
 Bring forth, produce. (ھتا) ھااتوا
 This, these. ھاتین
 Weak, tottering, infirm. (ھار) ھار
 Fallen, in ruin. ھانہار
 Name of a rebellious. (ھاروت) ھاروت
 ایک باغی فرشتہ کا نام
 Aaron. (ھارون) ھارون
 Haman. (ھامان) ھامان
 Barren and lifeless. (ھمد) ھمد
 بنجر زمین جس میں زور نہ ہو
 Dust floating in the air. (ھبا) ھباء
 The act of separating one's self
 from another. ھبنا
 He migrated, ھاجر
 وہ دوسری جگہ چلا گیا
 They migrated, ھاجروا
 وہ دوسری جگہ کو چلے گئے
 ھاجر
 ھاجروا

One who flees from his country,
 a refugee. ھاجر
 Those who fled from Mecca. ھاجروا
 مکہ سے جو لوگ بھاگے تھے
 Women who fled from Mecca. ھاجرات
 جو عورتیں مکہ سے بھاگ کر دوسرے
 ملک کو گئیں ہیں
 One who was forsaken. ھاجور
 چھوڑا گیا
 Migrate. ھاجر
 وطن چھوڑے
 They might migrate. ھاجروا
 وہ وطن چھوڑیں
 Migrate thou. ھاجر
 تو وطن چھوڑ
 You migrate. ھاجروا
 تم وطن چھوڑو
 Migrate. ھاجروا
 وطن چھوڑو
 توڑنا۔ بگاڑنا
 To demolish (ھد) ھد
 Was demolished. f. (ھدم) ھدمت
 تباہی گئی
 A Hoopoe. (ھد) ھدی
 ایک پرند کا نام
 A path, way, direction. (ھدی) ھدی
 ہدایت راہ

Thou hast led. ھدیت
 ہم نے راہ بتائی
 We led. ھدینا
 ہم نے توبہ کی
 We repented. ھدنا
 راہ بتائے گئے
 Were directed. ھدوا
 اوسنے راہ بتائی
 He directed. ھدی
 Do not receive guidance. ھدوا
 ہدایت نہیں پاتے
 Do not guide. ھدی
 ہدایت نہیں کرتے
 A victim for sacrifice. ھدی
 قربانی کا جانور
 A gift, an offering. ھدیہ
 نذرانہ تحفہ
 This man. (ھذا) ھذا
 یہ آدمی
 Those two men. ھذان
 یہ دو آدمی
 One woman. ھذہ
 ایک عورت
 Flight. (ھرب) ھرب
 بھاگنا
 A joke. (ھزل) ھزل
 مذاق
 They fled. (ھزم) ھزموا
 وہ بھاگے

شکست دیا جا رہا تھا۔
 Was routed, put to flight. ہنگامیا گیا
 Mockery, derision, jest, ridicule. تمسخر۔ لہتھا
 Mocks, ridicules. ہتھا کرتا ہے
 Are mocking, jesting. ہتھا کرتے ہیں
 He is being mocked. وہ تھتھا کیا جاتا ہے
 Shake, stir, set in motion. ہزے
 Stirred, put in motion. حرکت کرنی
 Moves, shakes, sets in motion. ہلاتی-حرکت کرتی دورتی ہے
 Dry and beaten down leaves. خشیم
 سوکھی گھاس کا چورا
 The withholding of that which is due. ہضم
 چکنی اور نازک چیز۔ Thin and smooth. ہضم
 ایسا ہی۔ یوں۔ Thus. (ہکنام) ہکن
 کیا-ایا؟ is there? does he? (هل) هل
 Perished, died. ہلاک
 جاتا رہا
 He has perished. اوسنے برباد کیا
 Has perished. اوسنے نابود کیا
 Thou hast caused to perish. تم نے برباد کیا
 I have caused to perish. میں نے برباد کیا
 We caused to perish. ہم نے برباد کیا
 Were perished. برباد کئے گئے
 Thou shalt cause to perish. تو برباد کریگا

Perdition. بربادی
 To be destroyed. خراب ہونا
 Those who destroy. ہلاک کرنے والے
 Those who destroy. ہلاک کرنے
 We are destroying. ہم ہلاک کرتے ہیں
 Is being destroyed. تباہ ہوتا ہے
 Destroys. خراب کرتا ہے
 Are destroying. خراب کرتے ہیں
 Come, bring. آو یا لاو
 Very impatient. بے صبر
 They. وہ بہت آدمی
 He thought about. اُس نے قصد کیا
 Made anxious. فکر میں ڈالا
 They have designed. انہوں نے ارادہ کیا
 They, two men. وہ دو آدمی
 A slanderer, defamer. ہتک یا غیبت کرنے والا
 Evil, suggestions of the Devil. شیطانی وسوسے
 A back-biter. چغل خور
 A shuffling sound. اونٹ کے پاؤں کی آواز گھس گھس
 They, them, their. وہ-انکا-اونہیں
 There, in that place. اوس جگہ-وہاں

Wholesome, digestible. ہزہ دار ہضم ہونے والا-دل پسند
 May it be blessing to you. یہ تمکو نفع پہونچے
 He. وہ (هو) هو
 Void. خالی (هوي) هوآء
 To love, desire, lust. آرزو کرنا نفس چاہتی ہے-رجوع کرتی ہے
 Is inclining. جھکتی ہے
 Is inclining. خواہشیں نفسانی خیال
 Desire, will, lust. گرایا
 Overthrown. اوس عورت نے فریفتہ کیا
 She infatuated. جہنم سب سے
 The lowest pit of Hell. نچلا گرتا
 Name of a prophet (Hul). محمد یوں کے ایک پیغمبر کا نام
 یہ لوگ
 These people. (هؤلاء) هؤلاء
 Meekness, quietness. خاموشی
 حلیمہ-آہستگی
 Contempt, ignominy. ذات خواری
 Light, easy. آسان
 Renders contemptible. خراب کرتا ہے
 Despised. خوار کیا
 Contemptible. خوار
 One who renders contemptible. ذات دینے والا
 Here, in this place. یہاں-اس جگہ (ههنا) ههنا

Sho, it. (ہی) ہی

Come. (ہبت) ہیبت

Raging with thirst from disease. (ہام) ہیم

ارگنی کا مرض کی وجہ سے بہت پیاسا ہونا

Are wandering

سر گھٹا ہونے

Got away. (ہیہات) ہیہات

Form, figure. (ہاء) ہیہات

ی

ای O. (یا) یا

That which is dry or withered. (یبس) یابس

مرجھایا ہوا یا سوکھا ہوا

Dried things. (یابسات) یابسات

Dry. (یبس) خشک

Got dried. (یبس) خشک ہوا

He swears. (الی) یائل

Taking an oath that they will abstain

from their wives. (ہین) قسم کھاتے ہیں

کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں گے

Gog. (یاجوج) یاجوج

Rubies. (یاقوت) یاقوت

Corrupting, perverting. (لوی) یالون

خراب کرنے ہیں یا بدلتے ہیں

Are cutting off. (بتک) یبتکن

Scratches the ground. (بجث) یبجث

مرغی کے زمین پر کودتا ہے (like a hen.)

Will tarry behind. (بطو) یبطون

دیر لگا دینا

Sips. (جرع) یبجوع

Becomes mad. (خبط) یبخط

Are winking to one another. (عمز) یبغامزون

آپس میں اشارہ بازی کرتے ہیں

Walks in a conceited manner. (مطا) یتمطی

اکڑے ساتھ چلتا ہے

To wander about distractedly. (تاء) یثیون

سرگردان پھرنا

The original name of Madina. (ثرب) یثرب

مدینہ کا اصل نام

Drawn, dragged (جر) یجر

Committing refractory. (جمع) یجمعون

سوکشی کرتے ہیں

Black smoke. (بحموم) یبحموم

Treats unjustly. (حاف) یحیف

Are sewing together. (خسف) یخسفان

سبٹے یا جوڑتے ہیں

A hand. (یدی) یی

دونوں ہاتھ

Destroys. (دمغ) یدمغ

Passes his time pleasantly. (وتع) یوتع

خوش بسر کرتا ہے

Are running hastily, hurriedly. (زف) یزفون

گھبراتے ہوئے دوڑتے ہیں

Are causing to slip or to fall. (زق) یزقون

پھسلانے ہیں

Expelled, removed. (فز) یستفز

To remove, expel. (تاء) یستفز

نکالنا-خارج کرنا

Are eliciting, discovering. (نبط) یسذبطون

Facility, easy. (یسر) یسر

He made easy. (یسر) یسر

Make easy. (یسر) یسر

We will make easy. (یسر) یسر

Drawing lots. (یسر) یسر

Has made easy. (یسر) یسر

Easiness. (یسر) یسر

We caused it easy. (یسر) یسر

Easy, facility. (یسر) یسر

Are attacking. (سطا) یسطون

Elisha. (یسع) ییشع

Snatches away. (سلب) یسلب

Arq resembling. (ضہی) یضاهدون

Searching, or searched. (یطالب) یطالب

The act of searching for. (طلب) یطلب

A petitioner. (طاب) یطاب

Petitioned. (مطلوب) یطلب

کھراوی (خراوی) To diminish, to defraud one of any thing. کم کرنا کسی کو دھوکھا دینا۔
 لکھ کرنا (لکھ) Utters. بولتا ہے۔
 Hides. چھپاتا ہے۔
 Jacob. یعقوب۔
 Are wandering distractedly to and fro. سرگردان ہوتے ہیں۔
 Name of an idol. ایک بت کا نام۔
 Hinders, keeps back. باز رکھتا ہے روکتا ہے۔
 Are leaving out. ہم چھوڑتے ہیں۔
 Does not leave. نہیں چھوڑتا۔
 A name of an idol. ایک بت کا نام۔
 Having understanding. سمجھ رکھتے ہیں۔
 A gourd, pumpkin plant. کدو کا درخت۔
 Certain, certainly. بیشک۔
 Are believing. یقین کرتے ہیں۔
 You are believing. تم یقین کرتے ہو۔
 Keeps safe. محفوظ رکھتا ہے۔

(رکت) یاکتم thing. کم کرنا کسی کو دھوکھا دینا۔
 Utters. بولتا ہے۔
 Hangs out or lulls out the tongue. زبان باہر نکالتا ہے۔
 A sea, river, دریا (یم) سمندر۔
 Proves, tests. جانچ کرتا ہے۔
 Deprives, destroys. بریاد کرتا ہے۔
 The right hand side. دہنی طرف۔
 The companions of the right hand. دہنی طرف کے لوگ۔
 The right hand, blessing. مبارک برکت۔
 Fountains, springs. چشمے۔
 To obtain, to get. پاؤں حاصل کرنا۔
 Are inebriated from drink. پیکر بیہودہ بنتے ہیں۔
 Ripeness, the act of coming to maturity. میوہ کا پکنا۔
 Calls aloud. آواز کرتا ہے۔
 Are wagging the head. سر ہلاتے ہیں۔

To remove, expel. مٹانا۔ خارج کرنا۔
 Was threatening to fall down. گراہی چاہتی تھی۔
 Are hastening. جلدی کرتے۔
 Oppressed by its gravity. سکیا شدت سے تنگ ہونا۔
 A day. دن۔
 To-day. آج کے دن۔
 Two days. دو دن۔
 Jonah. یونس۔
 Are sleeping. سوتے ہیں۔
 Will be made to go hastily. دروازے جائنگے۔
 Jews. یہودی۔
 Jewish. یہودی۔
 To wither. خشک ہونا۔
 Was despaired. ناامید ہوا۔
 Were despaired. ناامید ہوئے۔
 Were hopeless. ناامید ہوئے۔
 Becomes desperate. ناامید ہوتا ہے۔
 One who is desperate. ناامید۔

APPENDIX A

In this list all roots employed in the Qurán are arranged in alphabetical order. **اب 1:3** means that any derivative derived from the verbal root **اب** in the Qurán will be found on page 1. Column 3, and where **•** follows the root, it means that the derivative will be found in the supplement i. e. in Appendix B.

(الف)	3:3 ان	5:1 ابي	102:2 آلي	8:3 او	14:2 بار	1:3 برح	12:1 بطن	13:2 بلي	
	1:3 أب	1:1 آدم	7:1 أم	9:2 آب	9:2 باس	11:1 برد	12:1 بعث	13:3 بلي	1:3 بكت
	1:3 ابد	3:3 ادي	7:1 أم	103:2 ان	1:3 بدر	11:1 برز	12:2 بعث	• بن	15:1 ترب
	1:3 ابريق	4:1 ان	8:1 امت	6:3 ال	11:1 برزخ	• برص	12:2 بعد	13:3 بنا	1:3 ترف
	1:3 ابق	4:1 اذن	8:1 الامد	9:1 آل	102:1 بتك	11:1 برن	12:2 بعبر	14:1 ع	16:1 ترك
	1:3 ابل	4:2 اذي	7:3 امر	9:1 اولوا	15:1 بتل	11:1 برك	12:2 بعث	14:2 بهج	16:2 تسع
	1:2 اب	4:2 ارب	8:1 امس	9:1 اولئك	10:2 بت	11:1 برم	13:1 بعث	14:2 بهم	16:3 تسليم
	1:2 ابي	4:2 ارض	8:1 امل	• تاويل	102:1 بعث	11:1 برهان	12:3 بعض	9:1 باء	16:2 تعس
	2:1 اتى	4:2 ارک	7:2 امن	6:3 ان	10:2 البهر	10:1 برغ	13:1 بغل	9:3 باب	16:3 تفت
	2:2 ات	4:3 ارم	8:3 آه	10:2 بخس	• بس	• بس	12:3 بغى	14:1 بار	• تقن
	1:1 اتر	4:3 از	1:2 اوي	9:3 باخج	11:2 بسر	13:1 بقر	13:1 بقع	• بال	• تقى
	2:3 اذل	1:1 ازز	8:1 ان	10:2 بخل	11:1 بسط	13:1 بقل	13:1 بقل	14:2 بات	• تل
	2:2 انم	4:3 ازف	8:2 انت	9:3 بدأ	10:1 بسق	13:1 بقى	14:3 باض	15:2 باد	33:2 تالك
	2:3 اج	5:1 اسس	8:2 انثى	10:2 بدر	1:3 بسل	13:1 بكة	14:3 باع	14:2 بان	16:3 تلا
	2:3 اجر	11:1 استبرق	1:2 انس	10:3 بدع	15:1 بسم	13:1 بكر	14:2 بان	17:1 نم	17:1 القدر
	2:3 اجل	4:3 امر	1:2 انف	10:3 بدل	11:2 بشر	13:1 بكم	(ت)	14:1 تاب	
	3:1 احد	7:1 الف	8:2 انام	10:3 بدن	11:3 نصر	13:1 بكي	14:3 التابوت	15:1 تار	
	3:1 اخذ	7:1 ام	1:1 اني	10:2 بدا	12:1 بصل	13:2 بل	15:1 تب	17:1 التوراة	
	3:2 اخر	7:1 ام	8:3 اني	15:1 بدر	12:1 بضع	13:3 بلد	15:1 تبر	•	
	3:1 اخ	6:3 اله	9:2 اهل	10:3 بر	102:2 بطور	1:3 ابلس	15:1 تبع	102:2	
		6:3 الا		(ب)	12:1 بطر	• بلع	15:2 تبرا		
				9:3 بابل	12:1 بطش	13:2 بلغ			
					11:1 برج				

33-1	36-2	35-2	39-2	40-2	41-1	44-1	45-1	46-1	47-1	48-1	49-1
33-3	16-1	38-1	39-2	40-2	(س)	سرب	44-1	45-1	47-1	48-1	49-1
34-3	35-1	88-1	39-2	40-2	سَال	سربل	44-1	45-2	47-1	48-1	49-1
34-1	35-1	38-1	39-2	40-2	سَل	سرج	44-1	سَلَسَل	47-1	48-1	49-1
34-1	36-1	38-1	39-2	16-1	سَلَم	سرح	44-1	سَلَب	47-1	48-1	49-1
85-3	رَبَا	رَضِع	رَمَض	40-3	سَب	سرد	44-1	سَلَح	47-1	48-1	49-1
34-1	رَبَع	رَضِي	رَمَض	102-2	سَبَت	سردق	س	سَلَح	47-1	48-1	49-1
34-1	رَبِي	رَطَب	رَمَان	40-3	سَبَح	سرع	44-1	سَلَح	47-1	48-1	49-1
15-3	رَبَل	رَعَب	رَمِي	40-3	سَبَط	سرف	5-1	سَلَسَبِيل	47-1	48-1	49-1
34-1	رَج	رَعَد	رَهَب	40-3	سَبَع	سرق	44-1	سَلَط	47-1	48-1	49-1
34-1	رَجز	رَعِي	رَهط	40-3	سَبَع	سرمد	44-1	سَلَف	47-1	48-1	49-1
34-1	رَجس	رَعَب	رَهق	41-2	سَبَخ	سري	44-1	سَلَق	47-1	48-1	49-1
s	رَجع	رَعَد	رَهَن	زَل	سَبَق	سطح	44-2	سَلَق	47-1	48-1	49-1
85-3	رَجف	رَعَد	رَهَا	زَلزَل	سَبَل	سطر	4-3	سَلَك	47-1	48-1	49-1
4-2	رَجَل	رَعَم	رَاح	زَلَف	سَبَا	سَطَا	102-3	سَلَم	47-3	48-3	49-3
34-1	رَجَل	رَعَت	رَاد	زَلَق	سَبَا	سَعَد	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
34-3	رَجم	رَعَت	رَاض	زَلَم	سَبَت	سَعَد	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
34-3	رَجَا	رَعَد	رَاع	زَمَر	سَبَر	سَعَر	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
34-3	رَحب	رَعَف	رَاع	زَمَل	سَبَد	سَعِي	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
33-1	رَحِيق	رَعَف	رَاع	زَمَل	سَبَد	سَعِي	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
4-3	رَحَل	رَعَف	رَام	زَمَر	سَبَل	سَعَب	56-3	سَلَا	46-3	47-3	48-3
34-3	رَحَل	رَعَف	رَاب	زَمَل	سَبَل	سَعَف	86-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
34-3	رَحِم	رَعَف	رَاب	زَمَل	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
15-3	رَحِي	رَعَب	رَاع	زَمِي	سَبِي	سَعَف	91-1	سَلَا	46-3	47-3	48-3
4	رَد	رَعَد	رَانَ	زَهْد	سَبَك	سَعَف	44-3	سَلَا	46-3	47-3	48-3
5-3	رَدَا	رَعَم	(ز)	زَهْر	سَبَت	سَعَف	16-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
33-3	رَدَف	رَعِي	زَبَد	زَهق	سَبَر	سَعَف	42-1	سَلَا	46-3	47-3	48-3
33-2	رَدَم	رَعَب	زَبَر	زَهق	سَبَق	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
4-2	رَدِي	رَعَد	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
(د)	رَدَل	رَعَز	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
35-1	رَزق	رَعَس	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
35-1	رَس	رَعَض	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
35-3	رَسخ	رَعَض	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3
36-2	رَسَل	رَعَم	زَبَر	زَهق	سَبَل	سَعَف	44-2	سَلَا	46-3	47-3	48-3

51.4	58.2	54.3	57.1	58.2	5.2	65.2	66.2
51.2	58.2	55.1	57.1	58.2	61.2	65.2	66.2
51.3	58.2	55.1	57.1	58.3	61.2	59.1	66.2
51.3	58.3	5.2	102.3	(ع)	61.2	65.2	66.3
16.2	50.3	55.2	56.2	عبا 102.3	61.3	61.1	66.3
52.1	53.3	55.2	57.1	عبت 59.3	61.3	65.2	66.3
52.2	53.3	5.2	57.2	عبد 59.2	61.3	87.1	5.3
52.2	53.3	54.1	57.1	عبد 59.2	61.1	16.2	66.3
52.2	53.3	55.3	56.2	عبر 59.1	61.3	59.2	5.3
52.2	53.3	55.3	102.3	عبس 59.3	102.3	65.1	66.3
52.2	54.1	102.3	57.2	عبر 59.3	62.1	65.3	66.3
52.1	54.1	55.3	57.2	عكب 102.2	62.1	5.3	66.3
52.2	53.3	55.3	5.2	عكد 60.1	62.1	59.1	67.1
52.2	53.3	55.3	57.2	عكن 59.3	62.1	65.3	67.2
52.2	53.3	55.3	57.3	عكل 59.3	62.1	65.3	67.3
52.2	53.3	55.3	طاهر	عكنا 69.3	62.1	عاش 65.3	67.2
52.3	54.1	55.3	طاع	عكر 60.1	62.2	59.1	67.2
16.2	54.1	55.3	طاع	عكرا 16.2	62.2	65.3	67.3
52.3	54.3	(ط)	طاف	عكب 60.1	عسى 62.2	عاش 65.3	67.2
52.3	54.3	طبع	طاق	عجز 60.2	عشر 62.2	(غ)	67.2
52.3	54.3	طبق	طابق	عجف 60.2	عشا 62.2	غبر 65.1	67.2
52.3	54.3	طحي	طال	عجل 60.1	عصب 62.3	65.1	67.3
52.3	54.3	طرا	طوي	عجم 5.2	عصر 5.2 62.2	65.1	67.3
52.3	54.3	طرح	طاب	عد 60.2	عصف 59.2	65.1	67.3
53.1	(ض)	5.2	56.1	عدش 60.3	62.3	65.1	67.3
5.1	فان 54.1	طرد 56.1	طار	عدل 60.3	عصم 62.3	65.1	67.3
53.1	ضبح 54.1	طرف 56.3	طاف	عدن 61.1	عصا 62.2	65.1	67.3
53.1	ضجج 87.1	طرق 56.1	طان	عدا 60.3	عصي 62.3	65.1	67.3
50.2	ضحك 54.1	طعم 56.3	(ظ)	عدا 60.3	عص 62.3	65.1	67.3
52.3	ضحا 54.1	ظعن 58.1	ظعن	عذب 61.1	عضد 62.3	65.1	67.3
53.1	ضدا 54.1	ظفر 58.1	ظفر	عذر 61.1	عضل 62.3	65.1	67.3
53.1	ضرا 54.1	ظن 58.1	ظن	عر 5.2	عضا 62.3	65.1	67.3
53.1	ضرب 54.3	ظن 58.1	ظلم	عرب 61.2	عضف	65.1	67.3
53.1		ظن 58.1				65.1	67.3

Marfat.com

68.2	70.2 فرعون	71.3 فلق	73.8 فذج	75.8 فصب	77.1 فاس	80.8 فاسا	82.8 فرب
68.3	70.2 فرغ	71.8 فلك	73.8 قدر	75.8 فصي	78.2 فاع	80.8 كشط	82.8 كرب
65.2	69.3 فرق	71.3 فلان	73.1 قدس	75.8 فط	77.1 قال	80.8 كشتف	82.8 كان
68.3	68.1 فرة	6.1 فن	74.1 قدم	76.1 فطر	77.2 قلم	80.8 كظم	82.8 كوي
68.3	70.2 فري	16.3 فند	6.1 قدا	76.1 فطع	77.1 قري	81.1 كف	82.3 كي
(ف)	102.2 فر	86.2 فني	74.1 قذف	76.1 قطف	78.3 قاض	81.3 كفا	82.2 كاد
71.3	70.3 فرغ	72.3 فهم	74.2 قر	76.1 قظمير	(ك)	81.1 كفت	82.8 كاك
68.1	5.3 فسم	71.2 فات	74.2 قرا	76.2 قعد	78.1 كاس	81.1 كفر	82.3 كال
72.3	70.3 فسد	72.1 فاج	74.2 قرب	83.1 قعر	78.3 كاس	81.2 كفل	82.3 كان
68.1	16.3 فسر	72.1 فار	75.1 قرح	6.1 قفل	79.1 كب	81.2 كفي	(ل)
68.2	70.8 فسق	72.2 فاز	75.1 قرد	76.2 قفا	81.1 كبد	81.3 كل	82.1 لا
68.3	71.1 فسل	6.1 فووص	75.1 قرش	76.2 قلا	78.3 كبر	103.1 كلا	87.3 الاك
68.3	5.3 فصم	71.3 فاق	75.1 قرص	6.1 قلع	81.1 ككب	16.3 كالم	84.2 لا
69.1	71.1 فصل	72.2 فام	قرطس	76.3 قلب	79.1 ككب	78.1 كلف	6.3 اب
69.1	71.1 فصم	63.2 فاه	71.1 قرع	76.3 قلي	79.2 كتم	95.1 كلف	82.2 لبث
69.1	71.1 فص	72.3 في	6.1 قرك	87.1 قمع	79.2 كذب	81.3 كلم	82.2 لبد
69.2	16.3 فصم	68.1 فاء	74.3 قرن	76.3 قمر	79.2 كذر	82.1 كم	82.1 لبس
72.1	71.1 فضل	5.3 فاض	75.1 قرا	76.3 قمص	79.2 كدح	82.1 كما	82.2 لبن
69.2	5.3 فضا	(ق)	75.2 قس	76.3 قمر	8.3 كدر	82.1 كم	82.2 لبح
69.2	71.2 قطر	87.1 قبح	75.2 قسر	76.3 قمع	6.2 كدا	78.1 كمل	82.2 لجم
69.2	71.2 قظ	72.2 قير	75.2 قسط	87.1 قمع	79.2 كذب	82.3 كمة	6.3 لحد
69.3	71.2 قعل	72.2 قبس	75.1 قسم	76.3 قمطر	80.1 كرك	6.2 كفا	6.3 لعتق
69.3	16.3 قعد	72.2 قبص	75.2 قسا	87.1 قمع	80.1 كركب	82.2 كند	82.3 لسم
71.3	68.1 قفر	72.2 قبص	16.3 اقشعر	76.3 قمل	80.1 كرس	6.2 كن	82.3 لسن
70.1	68.1 ققع	72.3 قبل	75.2 قص	72.1 قنت	80.1 كرم	82.2 كندر	82.3 لحي
70.1	16.3 ققة	73.2 قذر	72.1 قصد	77.1 قنط	80.1 كره	82.2 كنف	82.3 لدا
70.1	71.3 قك	73.1 قذال	75.3 قصر	76.3 قنطر	80.2 كسب	82.2 كهل	82.3 لدا
69.3	71.3 قكو	73.2 قذاء	72.1 قصف	72.1 قنع	80.2 كسد	82.2 كهن	82.3 لدن
70.2	68.1 قكه	73.2 قذاء	8.3 قصم	77.1 قذنا	80.3 كسف	82.2 كهن	82.3 لذي
70.2	6.1 قلم	6.1 قذم	75.2 قضا	6.1 قذي			
70.2	71.3 قلم	73.2 قذ	72.1 قذاب	72.2 قذر			

(الف)

Insolent, an insolent person. (اشر) استعجاب

Fixed or assigned time. (اقت) مقررہ وقت

Interpretation, secret. (تأویل) تعبیر

شرح-معنی-راز

(ب)

Shall be crumbled or dashed into pieces. (بس) ریزہ ریزہ کیجا رہیگی

Swallow up. (بلع) نکل جا-پی لے

Tips of the fingers. (بن) آنکلیوں کی پوریں

Heart, mind, thought, intention, condition. (بال) خیال-ارادہ-دل

(ت)

Firmly fixed. (تقن) مضبوط طور سے قائم کئے ہوئے

God-fearing, devout, most pious. (تقی) خدا ترس-پرهیزگار

Had laid (his son) prostrate on his face. (تل) اوندا پچھاڑا

(ث)

Made or rendered slothful. (ثبط) کھیت یا زمین کو دینا

(ج)

A field, cultivated ground, produce of the same, fruits of the earth, tillage. (حرث) کھیت-زمین کا حاصل-ہوتی ہوئی زمین

(خ)

Bread. (خبز) روٹی

Pavilions. (خام) شامیانے-تیرے

(د)

One who wraps himself up in a garment. (دثر) کپڑے میں لپٹا ہوا شخص

The declining of the sun from the meridian. (دک) زوال افتاب کا وقت

(ذ)

The act of scattering abroad. (ذرا) پراگندہ کرنا

Women who scatter abroad (their offspring) (ذاریات) عورتوں کا اولاد بڑھانا

(س)

Shore of a river or sea. (ساحل) سمندر یا دریا کا کنارہ

Smoke which surrounds (سردق) سردق

(س)

Loaded, filled. (سحق) مستحقون

To become shining. (سجل) اشتعل

(ص)

Fingers. (صبع) اونگلیاں

Idols. (صنم) بت

Wool, fleece. (صاف) ابرو

(ط)

An instigation of the Devil. (طاف) رسیہ شیطان

(ع)

A side. (عطف) بھسو-ایک طرف ہونا

Leave without care. (عطل) بے پروائی سے چھوڑ رکھنا

Neglected. (معطل) بیکار چھوڑا ہوا

(ق)

Paper. (قرطس) کاغذ